



تصوف کے صحیح تعارف اور اس کے بنیادی مسائل پر مشتمل دو شیخ

معنایمن کا بھروسہ، جن سے یہ بات بے غبار ہو گر سائنس آتی ہے کہ

دِ حقیقت تصرف بھی دین ہی کا ایک شعبہ ہے جو قانونِ قرآن و

معنت ہی سے باخزا اور انہی کی تعلیمات کا پھر ہے۔

# دین کی دلخواہ

حضرت مسیح لاما ہبی محدث شیعی صاحبِ حجۃ  
مشیعی علماء پاکستان

[besturdubooks.wordpress.com](http://besturdubooks.wordpress.com)

مکتبہ معاویۃ القرآن کراچی  
(Quranic Studies Publishers)

## فہرست مضمایں

### دل کی دنیا

تقریزاً حضرت مولانا نقی گرجی عثمانی صاحب مدظلہ	۵
علم تصوف اور اس کا موضوع	۱
۱ امراض بامن کے علاج کی اہمیت	۲
۲ تصوف کی حقیقت اور اس کے محاٹے میں افراط و تغیرہ	۲
۳ اعمال باعثہ	۲
۴ اعمال باعثہ کی مجلہ فہرست	۵
۵ اعمال باعثہ کے فرائض و واجبات	۶
۶ اعمال باعثہ کے حرماں و ناجائز	۷
۷ اعمال ظاہرہ اور باعثہ میں ایک خاص فرق	۸
۸ اعمال باعثہ کی اصلاح کیلئے مرشد کی ضرورت	۹
۹ اعمال باعثہ کی اصلاح کیلئے امام غزالی کی تجویز	۱۰
۱۰ پھلاطیقہ مرشد کامل اور اس کا جائز ہے	۱۱
۱۱ ایک شیطانی فریب اور اس کا جواب	۱۲
۱۲ ایک اور شیطانی فریب	۱۳
۱۳ اولیاء اللہ کی پیچان	۱۴
۱۴ اصلاح باطن کا دوسرا طریقہ	۱۵
۱۵ تیسرا طریقہ	۱۶
۱۶ چوتھا طریقہ	۱۷
۱۷ نفسانی خواہشات اور ان کی قسمیں	۱۸
۱۸ نفسانی خواہشات کی دو قسمیں	۱۹
۱۹ محابدہ کی حقیقت	۲۰
۲۰ محابدہ کی حقیقت ایک مثال میں	۲۱

۲۸.....	علماء علماء	۲۲
۳۰.....	مقام محبت	۲۲
۳۲.....	مقام شوق و انس اور رضا بالصنائع	۲۲
۳۵.....	رضا بالصنائع	۲۵
۳۶.....	یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے	۲۶
۳۹.....	جو چیزیں دل کو تباہ کر دلتی ہیں	۲۷
۴۰.....	تمام رذائل کی جزا	۲۸
۴۲.....	زبان کی آفیں	۲۹
۴۳.....	لامعنی باتیں	۳۰
۴۵.....	فضول مبالغہ	۳۱
۴۵.....	مراع و جدال	۳۲
۴۶.....	تجاذبہ	۳۳
۴۹.....	ہمارے زمانے کا تجاذبہ	۳۳
۵۰.....	ایک اہم بات	۳۵
۵۱.....	اصلاح کی طرف پسلاندم توبہ!	۳۶
۵۲.....	توبہ کے تین درجے	۳۷
۵۵.....	صبر اور اس کی فحسمیں	۳۸
۵۷.....	مقام شکر	۳۹
۵۸.....	مقام زہر	۴۰
۶۰.....	مقام توحید	۴۱
۶۱.....	مقام توکل	۴۲
۶۴.....	توکل کی تین فحسمیں	۴۳
۶۵.....	توکل اور ترک اسباب	۴۴
۶۷.....	یقینی اسباب	۴۵
۶۸.....	ظنی اسباب	۴۶
۶۹.....	اسباب خیر	۴۷

بسم الله الرحمن الرحيم .

## تقریظ

از حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم  
نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على  
رسوله الكريم ، وعلى آله وأصحابه أجمعين .

أما بعد :

رمضان کی بات ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس  
سرہ سے بعض حضرات نے اصرار کیا کہ نماز فجر کے بعد "تصوف" کے تعارف اور اس کے  
بنیادی مسائل پر خطاب فرمائیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درخواست منظور فرمائی  
اور روزانہ فجر کے بعد کبھی پندرہ ہیں مئیں کبھی آٹھا گھنٹہ اور کبھی اس سے کچھ زیادہ دیر  
تک سیمان شروع ہو گیا۔ سیمان انعام لکش، انتاد لشین اور اعتماد مفید ثابت ہوا کہ اس کے  
ساعین آج تک اس کے کیف و سرور کو یاد کرتے ہیں۔

"تصوف" کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔  
کوئی اسے قرآن و سنت کی تعلیمات سے الگ کوئی چیز سمجھ کر اسے بدعت قرار دیتا ہے، کوئی  
شریعت کو اس کا حریف سمجھ کر صرف تصوف ہی کو مدارنجات قرار دیتا ہے اور شرعی احکام کو  
اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت دینے کیلئے تیار نہیں..... حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے  
ان بیانات نے تصوف کی اصل حقیقت اتنے دلنشیں انداز میں بیان فرمائی کہ افراط و تفریط کے  
ن خیالات کا قلع قلع ہو گیا اور یہ بات بے غبار ہو کر سامنے آگئی کہ درحقیقت تصوف بھی  
ہیں ہیں کا ایک شعبہ ہے جو تمام قرآن و سنت ہی سے مانوا اور انہی کی تعلیمات کا نجور

ہے۔

ان بیانات کو اس وقت نیپ ریکارڈ کی مدد سے محفوظ بھی کیا گیا اور بعد میں راقم المعرف نے نیپ ریکارڈ کی مدد سے انہیں قلبند بھی کرنا شروع کیا اور جب مانندہ ”ایلانگ“ میری ادارت میں نکلا شروع ہوا تو میں ہر ماہ ان بیانات کا کچھ حصہ قلبند کر کے ”دل کی دنیا“ کے مستقل عنوان کے تحت شائع کر تاہم۔ قلمی شکل میں یہ بیانات حضرت والد صاحب قدس سرہ کی نظر سے بھی گذرے اور انہوں نے بعض مقامات پر ترمیم و اضافہ بھی فرمایا۔

انہوں ہے کہ میں یہ سلسلہ زیادہ عرصے جاری نہیں رکھ سکا اور بعد میں وہ نیپ بھی محفوظ نہ رہے جن کی مدد سے میں انہیں قلبند کرتا تھا لہذا اس بات کا انتظار رہا کہ کسی وقت حضرت والد صاحب قدس سرہ ہتھ پر نفس نہیں ان کی محکیل فرمائیں گے۔ لیکن حضرت ~~حجۃ~~ کو اپنی مصروفیات اور علالت کی وجہ سے اس کا موقع نہ ملا۔ یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

اب خواہزادگان عزیز مولوی نعیم الشرف اور مولوی نعیم الشرف سلمہ نے ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ سے ان مضمایں کا مجموعہ شائع کرنے کا راہ دیا ہے اگرچہ ان بیانات کے بہت سے عنوانات ابھی ضبط تحریر میں نہیں آئے۔ لیکن جتنے مضمایں اس مجموعے میں آئے ہیں وہ بھی بذات خود بہت منید ہیں۔ اور کم از کم ان سے تصور کا صحیح تعارف اور اس کے بنیادی خدو خال ضرور سامنے آجائے ہیں۔

نیزان کے مطالعے سے اپنی اصلاح کی فکر بیدار ہوتی ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجموعے کو امت کیلئے مفید ہنائیں اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین!

احترم

محمد تقی عثمانی

دارالعلوم کراچی نمبر ۱۲

۱۹ نومبر ۱۴۳۶ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم ۰

## علم تصوف اور اس کا موضوع

### ”سیپارہ دل بیس کہ کتابے به ازیں نیست“

ہم اور آپ انسان ہیں، ہمیں اپنے انسان ہونے پر فخر بھی ہے، لیکن کیا بھی آپ نے غور کیا کہ ”انسان“ کتنے کے ہیں؟ کیا انسان اس گوشت پرست، ان ہاتھ پاؤں، ناک کان، اور اس ظاہری ذھانی کا نام ہے؟ کیا انسان کالفظ صرف ہمارے ظاہری جسم اور اعضا و جوارح کے لئے وضع ہوا ہے؟ آپ غور کر سی گے تو ان سوالات کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا، اس لئے کہ واقعات اس کی تردید کرتے ہیں، اس بات کو ہم نخشیں کرنے کے لئے ایک شال پر غور کر جائیں:

زید ایک انسان ہے، اپنی زندگی میں وہ اپنے مال و دولت اور زمین جا کر داد کا مالک ہے، اپنی بیوی کا شوہر ہے اپنے دفتر کا افسر ہے، اپنے ماحجمتوں پر اس کا حکم چلتا ہے، اس کے چھوٹے اس سے ڈرتے ہیں، جب تک اس کے سینہ میں آخری سانس باقی ہے اس وقت تک کسی کی جبال نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال لے اڑے، یا اس کی جائیداد پر قبضہ کر بیٹھے، یا اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنالے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو قانون اس کی پشت پناہی کے لئے موجود ہے، قانوناً وہ شخص سزا ہا تھا ہو گا۔  
لیکن جہاں آخری سانس اس کے منہ سے ٹکلا تو نہ وہ مال و دولت کا مالک رہا، نہ

نہیں جائیدا کہ اس کی روی اس کی رہی نہ اسکے ماتحت اس کی لاش صحیح سالم بھی گھر میں موجود ہے، لیکن اس کی تمام دولت کسی اور کی ہو چکی ہے، جو مکان اس نے اپنے لئے تعمیر کیا تھا اب غیروں کی ملکیت ہے، جن توکروں پر وہ حکم چلا تھا اب وہ کسی اور کے چشم واپر و کو دیکھتے ہیں۔

اگر انسان اس گوشت پوست اور ظاہری ذھانچہ کا نام تھا تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے رونما ہو گیا۔ اس کا جسم وہی جسم ہے، اس پر وہی گوشت پوست اب بھی موجود ہے، اس میں ہاتھ پاؤں اور ناک کا ان اسی طرح لگے ہوئے ہیں، لیکن اب اس کو کوئی انسان کیوں نہیں کہتا؟ اب اسے انسانی حقوق کیوں حاصل نہیں؟

معلوم ہوا کہ ”زید“ صرف گوشت پوست اور ظاہری ذھانچہ کا نام نہیں تھا، سوال یہ ہے کہ وہ پھر کس چیز کا نام تھا؟ آئیے، دیکھیں کہ ”زید“ کی لاش میں وہ کوئی چیز ختم ہو گئی ہے، جس کی بناء پر اب اسے انسان نہیں کہا جاتا؟.... زر اساغور کر کسی گے تو معلوم ہو گا کہ ”زید“ کی لاش میں اور تمام چیزیں موجود ہیں، صرف ایک چیز کی کہی ہے، اور وہ ہے .... ”روح“ اسی روح کی کہی سے اب زید وہ زید نہیں رہا جو بھی کوئی بندگوں کا مالک تھا، اور جس کا اس کے ماتحت ہوں پر حکم چلا کر تھا۔

اس تحریک سے واضح ہو گیا کہ انسان صرف گوشت پوست اور جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ جسم اور روح کے مجموعہ کا نام ہے، جب تک روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے اس وقت تک انسان انسان کہلاتا ہے، اور جب روح جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک بے جان لاش بن جاتا ہے، انسان نہیں رہتا۔

ایسی بات کو دوسرے پیرا یہ میں یوں کہ لیجھتے کہ انسان میں دو قسم کے جہاں پائے جاتے ہیں، ایک جسم اور مادہ کا جہاں، جسے ہم بندگوں سے دیکھ کر اور باتھوں سے چھو کر محسوس کر لیتے ہیں، اور اس جہاں کے ساتھ ایک بالطفی جہاں اور ہے، جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ اسی بالطفی دنیا میں ”عروس“ آباد ہے، اسی پوشیدہ دنیا میں دل دھڑکتا ہے، اسی میں خواہشیں جنم لئی ہیں، اسی میں امنیں اور آرزویں پرداں چڑھتی ہیں، اسی میں سرور اور غم، نفرت اور محبت، ایثار اور بعض بیسے جذبات پرورش پاتے ہیں اور

لطف کی بات یہ ہے کہ یہی پوشیدہ دنیا جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں، انسان کی اصل دنیا ہے جب تک اس دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے اسی وقت تک انسان زندہ رہتا ہے اور اسے معاشرے میں تمام انسانی حقوق حاصل ہوتے ہیں، لیکن جماں یہ نظام بند ہو جاتا ہے وہیں انسان مردہ کھلانے لگتا ہے، اور اس کے تمام حقوق سلب ہو جاتے ہیں۔

پھر جس طرح انسان کا ظاہری ہری جسم کبھی تند رست ہوتا ہے اور کبھی اسے بیماریاں لگ جاتی ہیں، اسی طرح روح بھی کبھی صحت مند ہوتی ہے اور کبھی بیمار ہو جاتی ہے جس طرح زکام، نزلہ، بخار اور مختلف قسم کے درد جسم کی بیماریاں ہیں، اسی طرح خم و غصہ، خود غرضی، تکبیر، ریاع اور خود پسندی روح اور دل کی بیماریاں ہیں۔

اسلام چونکہ زندگی کا ایک ہمہ گیر نظام ہے، اس لئے اس نے انسان کی ان دو یقینتوں کو نظر انداز نہیں کیا، اس نے جماں ہمارے ظاہری جسم کے متعلق ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں، وہاں ہمارے دل کی پوشیدہ دنیا سے متعلق بھی ہمیں کچھ احکام بتائے ہیں، جس طرح ہماری ظاہری زندگی میں وہ ہمیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے بہترن اعمال کو اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور کچھ برے کاموں سے روکتا ہے، اسی طرح ہماری باطنی زندگی میں اپنے آپ کو کچھ بہترن صفات سے آراستہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور کچھ رذیل صفات سے پاک کر دیتا ہے۔

اسلام کے جو احکام ہماری ظاہری زندگی سے متعلق ہیں وہ علم فقہ کا موضوع ہیں، اور جو احکام ہمارے باطن کی پوشیدہ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ علم تصوف میں بیان کئے جاتے ہیں۔

اللہ اعلم تصوف کا موضوع ہمارے دل کی وہ دنیا ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی اگر اس کا ہماری زندگی سے نہایت گرا تعلق ہے، سوال چاہیدا ہوتا ہے کہ یہ دل کیا ہے؟ طبیبوں اور زکرتوں سے پوچھتے تو وہ اس کا جواب یہ ہیں گے کہ دل گوشت کا ایک لوٹھڑا ہے، جو انسان کے سینہ میں باعثیں جانب لٹکا ہوا ہے، اور اس کے جوف میں سیاہ قسم کا جما ہوا خون ہوتا ہے، جو سویداء قلب کھلاتا ہے، اور جب یہ لوٹھڑا خون کو پپ کر کے باہر کی طرف بھیٹتا ہے تو اس کو دل کی دھڑکن سے تغیر کرتے ہیں، اسی طرح روح اطباء کے

نذریک اس بھاپ اور اشیم کا نام ہے جو قلب کے اندر خون سے پیدا ہوتی ہے، اور شریانوں کے ذریعہ سارے بدن میں پھیج جاتی ہے۔

لیکن تصوف میں جس چیز کو دل اور روح کہا جاتا ہے وہ اس ظاہری روح اور دل سے کسی قدر مختلف ہے تصوف کی اصطلاح میں ”دل“ اور ”روح“، دولطیف قوتوں میں جو انسان کے خالق نے اس ظاہری قلب و روح کے ساتھ پیدا کی ہیں، جس طرح آنکھ دیکھنے کی، کان سننے کی اور باتھوئے کی طاقت رکھتے ہیں، اسی طرح خون کا یہ لوقصر ابھی ”دل“ کہتے ہیں خواہشیں کرنے کی طاقت رکھتا ہے تصوف کی اصطلاح میں دل اسی طاقت کا نام ہے جو انسان میں مختلف خواہشیں اور جذبات پیدا کرتی ہے۔

دل اور روح کی یہ لطیف اور پوشیدہ قوتوں ہمارے ظاہری قلب کے ساتھ کیا جو زر کھتی ہیں؟ ان دونوں میں باہم کی ساری طب ہے؟ اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ان دونوں میں باہم گمراہ طب ہے، جس طرح ہے؟ یہ صرف خدا جانتا ہے، جس نے یہ جو زیست کیا ہے، جس طرح ہمیں یہ معلوم نہیں کہ مقناطیس اور لوہے میں کیا رطب ہے؟ مقناطیس روئی اور کاغذ کو کیوں نہیں کھینچتا؟ اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ قلب و روح کیا یہ پوشیدہ قوتوں خون کے اس لوقصر سے کیا جو زر کھتی ہیں؟ اسی لئے جب مشرکین نے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا تو اس کے جواب میں یہی کہا گیا کہ

﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ﴾

”یعنی روح ایک امر ربی ہے جس کی حقیقت تم نہیں جان سکتے۔“

تصوف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دل کی یہ پوشیدہ دنیا انسان کی ظاہری دنیا کی بنیاد ہے، اور اسی پر انسان کا بنا ڈالو رہا گا زموقوف ہے، اگر دل کی یہ دنیا صحیح ہے، اس کا نظام خیک تھیک ہے، اس میں صحیح خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ صحیح جذبات جنم لیتے ہیں تو انسان صحت مدد ہے اور اگر اس کا نظام گڑیز ہے تو انسان کی ظاہری زندگی کا نظام بھی گڑیز ہو جاتا ہے، سرکار دو عالم ہیئتے نے اسی حقیقت کو آج سے تیرہ سو سال پہلے اس طرح بیان فرمایا تھا۔

”أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ لِمَضْغَةٍ إِذَا أَصْلَحَتْ صَلْحَ الْجَسَدِ“

كَلَهُ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كَلَهُ، أَلَا وَهِيَ الْقُلُوبُ .

"یعنی خبردار اجسم میں ایک لوگڑا ہے اگر وہ درست رہے تو پورا جسم درست رہتا ہے اور اگر وہ وگڑ جائے تو پورا جسم بگر جاتا ہے" ۔

دل کے سورتے اور مگر نے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کن چیزوں سے سورتے اور کن چیزوں سے بگرتا ہے؟ اس کی بیماریاں کیا ہیں؟ اور ان کا علاج کیسے کیا جاسکتا ہے؟ بس یہی باتیں علم تصوف کا موضوع ہیں اور انسی بالوں کو قدرے تفصیل اور وضاحت کے ساتھ میں آئندہ نشتوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں ۔

---

## امراض باطنی کے علاج کی اہمیت علاج آتش رو می کے سوز میں ہے ترا

بچھلی مجلس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان صرف اس کے ظاہری وحاظ پر کا نام نہیں، بلکہ اس کا اصلی جو ہر اس کا باطن ہے جس کو قلب اور روح وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، بچھر صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انسان کے ظاہری اعمال کی صحت و فساد اور بنا اور بیان اس کے باطن کے بناؤ و بگار پر موقوف ہے۔

آن کی مجلس میں یہ بتانا ہے کہ جس طرح ظاہر دن بھی تدرست ہوتا ہے بھی بیان اور تدرستی قائم رکھنے کے لئے نہ ابوا وغیرہ سے تدبیر کی جاتی ہے، بیماریوں کو فتح کرنے کے لئے دو اوس سے علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کے باطن کی تدرستی کی تدبیر پر خالق و مالک کو بیچانا اس کا ذکر و شکر اور اس کے احکام کی اطاعت ہد و قت کرنا ہے اس کی بیماری اللہ کی یاد سے غفلت اس کے احکام کی خلاف ورزی ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

﴿غَيْرِ قَلْوَبِهِمْ مِرْصُ فَرَادِهِمُ اللَّهُ مِرْضَا﴾

”ان کے دلوں میں (کفر و نافرمانی کی) بیماری سے سو اللہ نے ان کی بیماری اور بیوہادی،“  
یہ دل کی بیماریاں، کفر، شرک، انفاق، حسد، کینہ، سکر، نجوم، خوش، بخشن، احباب  
جاہ، حب مال، غرور وغیرہ ہیں اور تدرستی یہ ہے کہ اپنے مالک حق تعالیٰ کو پہچانے،  
 تمام لفظ لفظان، تکلیف، احت کا مالک اس کو سمجھے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، ابھی

تکلیف پیش آئے تو صبر سے کام لے تمام معاملات میں اللہ پر بخوبی کرے اس کی رحمت کا امیدوار اور عذاب سے ذرتا رہے اس کی رضا جوئی کی فکر میں رہے اور صدق و اخلاص کے ساتھ تمام احکام بجالائے۔

ان باطنی امراض سے نجات حاصل کرنے کا مکمل علاج قرآن کریم ہے:

﴿وَنَزَّلْتُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ  
لِلْمُوْمِنِينَ﴾

”ہم نازل کرتے ہیں قرآن سے وہ چیز جو شفاء اور رحمت ہے مہمین کے لئے“۔

دو سری جگہ ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا الْأَفْلَقُ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَهْدِي وَشِفَاءٌ﴾

”یعنی آپ نہیں کہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان، اولوں کیلئے ہدایت ہے اور شفاء“۔

لیکن باطنی بیماریوں اور ان کے علاج میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ظاہری بیماریاں تو آنکھوں اور دوسرا سے دوسرے میں محسوس کی جاسکتی ہیں نہیں کی حرکت، نون اور نصارات کا امتحان کر کے معلوم کی جاسکتی ہیں ان کے معالجات بھی محسوس آلات اور دواؤں سے کئے جاتے ہیں باطنی امراض نہ آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں نہ نہیں وغیرہ سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے اسی طرح ان کا علاج بھی محسوس نہ دواؤں اور دواؤں سے نہیں ہوتا ان امراض کی تشخیص اور علاج کی تجویز صرف قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصول ہی سے ہو سکتی ہے۔

قرآن و سنت میں انسان کے ظاہری اعمال اور معاملات اور باطنی عقائد اور اخلاق سب ہی کی اصلاح کا مکمل نظام موجود ہے۔

امت میں صحابہ و تابعین سے لے کر موجودہ زمانے کے صالحین کا ملین تک جس کو جو کچھ کمال حاصل ہوا ہے وہ صرف اسی نظام عمل کی مکمل پابندی سے ہوا ہے وہ جس طرح

نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے پابند تھے ای طرح صدق، اخلاص، توحید، تواضع، صبر، شکر،  
توکل، وزہد وغیرہ باطنی اعمال میں بھی ویسا ہی کمال رکھتے تھے وہ جس طرح بحوث، فریب،  
چوری، بے حیائی وغیرہ گناہوں سے برتے بچتے تھے، تھیک ای طرح کبوٰ نخوت، دوسروں  
کی تختیر و توہین، حب جاہ، حب مال، حرص، بخل وغیرہ باطنی گناہوں کو بھی ایسا ہی حرام  
جانستہ اور ان سے پر بیز کا اہتمام کرتے تھے۔

علماء امت نے عوام کی سولت کے لئے قرآن و سنت کے اس پورے نظام کو چند  
علوم و فنون میں الگ الگ جمع کر کے مدون کر دیا، اعمال ظاہرہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نکاح  
و طلاق اور تمام معاملات کو علم فقہ میں اور اعمال باطنی میں سے عقائد کو علم عقائد میں اور  
اخلاق و معاشرت کو علم تصوف میں جمع کر دیا۔

بعض حضرات علماء نے میتوں علوم کو کیجا بھی لکھا ہے، علماء ابن السیکی نے اپنی  
کتاب "جمع الجواعع" میں جو اصول فقہ کی مشورہ کتاب ہے اس کے آخر میں بعنوان  
"حاتم، تصوف و اخلاق اور اعمال باطنی کی بھی کچھ تفصیل لکھی ہے۔

امام قشيری نے رسالہ قشیریہ، حضرت سروردی نے "عوارف  
المعارف"، امام غزالی نے "ایماء العلوم" وغیرہ مستقل تصانیف میں اعمال باطنی کی  
اصلاح اور ان کی اہمیت پر نہایت تفصیل بحث فرمائی ہے، اور اس آخری دور میں حضرت  
حکیم الامت سیدی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے اس موضوع پر  
العکشف، التشرف، مسائل السلوك، تعلیم الدین، قصد المسیل وغیرہ نہایت جامع کتابیں  
تحریر فرمائی ہیں۔

مگر ایک زمانہ دراز سے مسلمانوں کی دین اور علوم دینیہ سے عام خلفت کے نتیجے  
میں سب ہی علوم دینیہ سے مسلمانوں کی اکثریت ہے، بہرہ ہوئی چلی گئی، خصوصیت سے آخر  
الذکر علم جس کا تعلق اعمال باطنی کی اصلاح سے ہے وہ تو ایسا متروک ہوا کہ عوام تو عوام  
علماء کی ایک بڑی تعداد بھی اس سے بے تعلق ہو گئی، صرف اعمال ظاہرہ کی پابندی میں دین  
کو منحصر بھی لیا گیا، صدق و اخلاص، توحید و توکل، صبر و شکر، قیامت و زہد، تقویٰ کے صرف  
الفاظ زبانوں پر رہ گئے، حب جاہ، حب مال و نخوت، وغور، اغیظا و غصب، اکینہ وحد، جیسے

حرمات اور ملک امراض سے نجات حاصل کرنے کی فکر بھی دلوں سے محروم ہوگی۔

میرا خطاب اس معاملے میں سب سے پہلے اپنے نفس سے اور پھر درسرے اہل علم سے ہے، کہ ہم نے اپنا طاہر تو کچھ دین کے مطابق بنالیا ہے، اعمال طاہر کی حد تک ہم پاندھ شریعت بھی سمجھے جاتے ہیں، اور ایسے تمام گناہوں سے بچنے کا بھی کسی حد تک اہتمام کرتے ہیں جو عوام کی نظر میں منصب علم و علماء کے خلاف سمجھے جاتے ہیں، اور جو لوگ ان میں بتلا ہوں عوام کی نظر سے گر جاتے ہیں، لیکن باطنی حرمات اور کبیرہ گناہ جو درحقیقت طاہری گناہوں سے زیادہ سخت گناہ ہیں ان سے بچنے کا کوئی اہتمام ہم میں نظر نہیں آتا۔

یہاں ایک سوال ہم سب کو اپنے نفس سے یہ کرنا چاہئے کہ ہماری نمازو زہ وغیرہ عبادات اور پوری بدمعاشی عیاشی اور سینما وغیرہ عام کھل میشوں سے ہمارا احتساب اگر فی الواقع فکر آخرت اور خوف خدا کے نتیجے میں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ان سے زیادہ بڑے گناہوں میں ہم بالکل بے فکری کے ساتھ بتلا ہیں، ان میں نہ خوف خدا سامنے آتا ہے نہ فکر آخرت۔

کہیں ایسا تو پہیں کہ ہمارے یہ اعمال طاہرہ خالص اللہ کے لئے ہونے کے بجائے ہماری پیشہ و راندہ نیت کے نتیجے میں ہوں، ان کا اعلیٰ خدا اور آخرت سے نہیں بلکہ اپنے پیشے سے ہو، کہ اگر نمازو زہ وغیرہ چھوڑا گیا یا حرمات حلہ طاہرہ کا لارنکاب کیا گیا تو ہمیں ملے ہوئے منصب تعلیم و فتویٰ اور امامت و خطابت وغیرہ ہم سے چھن جائیں گے اس لئے صرف ان گناہوں سے بچنے کا ہم اہتمام کرتے ہیں، جو ہمارے پیشے اور جبود ستار میں نہیں کھپتے، اور باطنی گناہ جن پر جبود ستار کا پردہ ڈالا جاسکتا ہے، ہم نے ان کو شیرما در سمجھ لیا ہے۔

آج ہماری تعلیم و تبلیغ جو بے اثر ہو کر رہ گئی ہے بلکہ فتنوں اور بھگڑوں کا ذریعہ بن

گئی اس کا واحد سبب ہماری یہ روش ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

تجھہ شاہد ہے کہ دنیا میں صرف انسین علماء کی تعلیم و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کے آثار باقی رہے جن کے قلوب تقویٰ اور خشیت اللہ اور اخلاق سے لبرز تھے، ورش بڑے بڑے محققین کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا، اللہم انا نسألك الهدى و السعى و العفاف والغنى۔

[besturdubooks.wordpress.com](http://besturdubooks.wordpress.com)

## تصوف کی حقیقت اور اس کے معاملے میں افراط و تفریط

بچھلی مجلسوں میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ انسان قلب اور قلب یعنی باطن و ظاہر کے مجموعے کا نام ہے قرآن و سنت نے جو انسان کی صلاح و فلاح کا کامل نظام بتایا ہے اس کے احکام دونوں سے متعلق ہیں، سولت کے لئے ظاہری اعضاء انسانی سے متعلق احکام عبادات، نکاح و طلاق، معاملات کو علم فقہ میں مدون کر دیا گیا ہے، اور باطن یعنی قلب و روح سے تعلق رکھنے والے احکام اعتقدات و اخلاق کو علم عقائد اور علم تصوف میں الگ الگ جمع کر دیا گیا ہے، اور درحقیقت یہ سب کتاب و سنت کی ہی تعلیمات کے مختلف شعبے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے الگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے ہاتھ الگ عضو ہے، پاؤں الگ، ہنگو اور چجز ہے ناک اور قلب، اگر، معدہ، آنسیں سب الگ الگ اعضاء ہیں، لیکن مجموعہ انسانیت کی عجیبل ان سب کے مجموعے سے ہوتی ہے، ان میں سے کسی ایک کو لیکر دوسرے سے استغنا نہیں ہو سکتا، نہ ایک کا وجہ دوسرے کیلئے منافی ہے، نہ ایک کا عمل دوسرے کے عمل سے کلراتا ہے۔

اسی طرح عقائد، فقہ، تصوف بلاشبہ الگ الگ علوم و فنون ہیں، مگر انسان کامل یا موسمنا و مسلم ان سب کے مجموعے ہی سے بنتا ہے، قرآن و سنت کی پیرروی سب پر عمل کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، ان میں سے صرف کسی حصے کو لیکر دوسرے سے استغناء ایسا ہی

ملک ہے جیسے کانوں کی حفاظت کریں اور آنکھوں کو ضائع کر دیں، نقہ کو تصوف کے خلاف یا تصوف کو نقہ کے خلاف سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے آنکھوں کو کانوں کے خلاف سمجھنا؛ جن حضرات کو حق تعالیٰ نے ان تمام تعلیمات قرآن و سنت کا جامع بنایا ہے وہی ان تمام کی حقیقت کو پہچانے والے ہیں، انہیں کے ارشادات سے ان علوم و فنون کا صحیح مقام اور درجہ معلوم ہو سکتا ہے۔

**حضرت شاہ ولی اللہ علیہ السلام نے فرمایا:**

”شریعت بغیر طریقت (یعنی تصوف) کے نزدیک نہ ہے، اور طریقت بغیر شریعت کے زندگ و الحاد“۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے اس ایک جملے میں ان تمام علوم و فنون کی پوری حقیقت کھول دی ہے کہ شریعت یعنی ظاہری اعمال کا علم توبت سے منافقین کو بھی تھا، اور آج بھی سیکھزوں یہودی، فرانسی، اور لامد، بہ دہریے مستشرقین ان علوم اسلامیہ کے ہر دو تھق اور جانے والے موجود ہیں، مگر وہ ترافلسفہ ہے دین نہیں، وین جب ہو گا جب کہ اس کے احکام کے حق ہونے کا اعتقاد بھی ہو، اور ان کے احکام ظاہرہ و باطن پر عمل بھی، اس لئے صرف علوم ظاہری کی فن دانی اور تحقیقی مباحثت کوئی دینی کمال ہے، نہ اللہ و رسول ﷺ کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت ہے۔

اسی طرح طریقت و تصوف کا نام لے کر جو کوئی احکام شریعت کے خلاف چلا ہے وہ ایک زندگ و الحاد اور قرآن و سنت کی تحریف ہے۔

**حضرت قاضی شاء اللہ بانی پیر علیہ السلام نے فرمایا:**

”جس کاظما ہر پاک نہ ہواں کا یاطن پاک ہوئی نہیں سکتا،“

چوتھی صدی ہجری کے مشور عالم اور شیخ صوفیاء امام ابوالقاسم قشیری علیہ السلام نے اپنے زمانے کے مشائخ صوفیاء کے لئے ہو ایک مفصل پیغام بنام ”رسالہ قشیری“، لکھا ہے، اور بعد کے تمام مصنفین کی کتابوں کا مدار اور متن یہی کتاب سمجھی گئی ہے، اس کے مقدمہ میں بڑی وضاحت سے ائمہ صوفیاء کے مقالات سے ثابت کیا ہے کہ طریقت شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ شریعت و سنت پر پوری طرح عمل کرنے کا نام ہی

طریقت ہے، اس کے باب اول میں فرمایا کہ اسلام میں نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑی فضیلت صحبت رسول ﷺ کی گئی ہے، اس لئے جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل کیا ان کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے اعلیٰ لقب ان کا "صحابی" ہونا ہے۔

ان کے بعد جن لوگوں نے صحابہ کی صحبت سے علم و عمل حاصل کیا ان کا سب سے بڑا نعمتی لقب "تابعی" اور ان کے بعد کے لوگوں کیلئے "تابع تابعی"، قرار پایا، یہ سب حضرات شریعت و سنت پر مکمل عمل کرنے والے، کتاب و سنت کے تمام اعمال طاہرہ و باعث سے پوری طرح آراستہ، شریعت و طریقت کے جامع حضرات تھے، ان کے طبقات اور القاب علوم و فنون کی تخصیصات کے بجائے صحابی "تابعی" تابع تابعی کے عنوان سے تھے، ان کے بعد لوگوں کے طریقے مختلف ہو گئے، بعض کا زیادہ اشتغال تعلم و تعلم تصنیف و تالیف میں زیادہ رہا۔

باطنی علوم و اعمال میں بھی ان کو کمال حاصل تھا، مگر اشغال ان میں کم ہوا، وہ علوم طاہرہ کے مختلف ہو کر عالم، محدث، مفسر، فقیر کیلائے اور بعض جن کا رخ عمل کی طرف اور اعمال دین کے مکمل اہتمام کی طرف زیادہ رہا وہ عباد، زہاد کیلائے، مگر علوم طاہرہ شرعیہ میں بھی ان کو کوئی کمی نہیں تھی، مگر عباد و زہاد میں پھر کچھ ایسے لوگ بھی داخل ہو گئے جو طریق سنت سے مخرج بدعاات میں بجا ہوئے اور مسلمانوں میں مختلف فرقے پیدا ہو گئے، ہر فرقے میں کچھ لوگ عباد و زہاد کے نام سے معروف ہو گئے، اس وقت وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم شریعت و سنت کے مکمل اتباع کے ولادوہ ہونے کے ساتھ عبادات و زہادت اور اعمال باد کی محکیل کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے، وہ لال تصوف کے نام سے موسم ہوئے اور دوسری صدی ہجری ختم ہونے سے پہلے ہی یہ اکابر مشائخ اہل تصوف کے نام سے معروف ہو گئے، جو طاہرہ شریعت و سنت پر مکمل عمل کے ساتھ اپنے ایک ایک سانس کی حفاظت اور ذکر اللہ میں مشغول رہنے کا اہتمام کرنے والے، اور غفلت کے ہر خطے سے بچنے والے تھے، امام فشیبوی "کے الفاظ اس بارے میں یہ ہیں:

ثم ظهرت البدع وحصل التداعى بين الفرق فكل فريق  
ادعوا أن فيهم زهاداً فانفرد خواص أهل السنة  
المراعون أنفاسهم مع الله تعالى الحافظون قلوبهم عن  
طوارق الغفلة باسم التصوف وانتشر هذا الاسم  
لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من المحررة.

(رسالة قشيريہ، ص ۸)

”پھر مسلمانوں میں بھی کچھ بد عیسیٰ نکل آئیں اور ہر فرقہ اپنی طرف یہ کہ کر  
ہلانے لگا کہ ہم میں بھی درویش ہیں ان کی طرف رجوع کرو“ اس وقت امتیاز  
کے لئے ان خواص اہل سنت کو تصوف کے نام سے ممتاز کر دیا گیا ”جو اللہ تعالیٰ  
کے ساتھ تعلق میں اپنے ایک ایک سانس کی حفاظت کرتے ہیں“ اور غنائم کے  
تمام خیالات سے اپنے قلوب کی حفاظت کرتے ہیں اور تصوف کے ساتھ ان  
کے نام کی شرط و سری صدی ابھری سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔“

امام قشيریؒ میں اس تصریح سے ثابت ہوا کہ اہل تصوف اور صوفی کے نام سے  
سلف کے زمانے میں صرف وہی لوگ معروف ہوئے جو شریعت و سنت کے پیرو اور بدعتات  
سے مکمل ایجاد کرنے والے تھے خالی زہد و ریاضت والے جو تبع سنت نہ تھے وہ اس نام  
سے موسم نہ تھے بلکہ ان سے امتیاز پیدا کرنے ہی کے لئے یہ نام اختیار کیا گیا تھا اور علماء  
وصوفیاء کے اوصاف میں بجز اس کے کوئی فرق نہیں تھا کہ زمانہ نبوت ہے بعد اور ضعف  
وقویٰ کے سب اعمال ظاہر و باطن میں یکساں کمال اور بیک وقت دونوں میں مکمل اشتغال  
ممکن نہ رہا تو علماء نے تعلیم و تعلم تصنیف و تنوی اور علمی مسوغات کیوں کو اپنے عمل کا موضوع  
بنالیا، اس کے مدارس قائم کئے اصولی کرام نے باطنی اعمال و احوال کی درستی اور اس  
پہلو سے مسلمانوں کی اصلاح و ارشاد کو اپنا دائرہ عمل بنالیا، اس کے لئے خانقاہیں آباد  
ہوئیں، یہ صرف ایک تقسیم کار کا اصول تھا، باہمی اختلاف کا کوئی پہلو نہ تھا، کیونکہ اہل  
مدارس اپنے باطنی اعمال و احوال سے عاشرل نہ تھے اور اہل خانقاہ احکام ظاہرہ شرعیہ سے  
ناؤقف یا ان کی حیثیت کو کم کرنے والے نہ تھے۔

لیکن زمانے کی نیزگیاں بھی کیا کیا گل کھلاتی ہیں، دونوں طبقوں میں محقق ماہرین کی کمی شروع ہوئی اور ایک طرف علماء میں ذکر اللہ اور فکر آخرت سے غفلت کے جراثیم آئے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کرم ﷺ سے انتہائی محبت کا جو مقام ایمان کامل کے لئے ضروری ہے اس میں کی آئی، دوسری طرف صوفیاء میں علوم شریعت سے ناوافیت یا کم علمی کے جراثیم پھیلے، سنت و شریعت کے اہتمام میں کی آئی، اس کے نتیجے میں مدارس اور خانقاہوں کے ادارے ایک دوسرے کے حریف بن کر ایک دوسرے پر الزام رٹاشی میں لگ گئے، مدارس میں صرف چند مسالک جان لینے کو کمال سمجھ لیا گیا، اور خانقاہوں میں چند تسبیحات و تواضیل کو مدارس میں اعمال باعث کافند ان ہوتا چلا گیا، اور خانقاہوں میں شریعت و سنت کا، یہاں تک کہ تصوف میں صرف چند رسوم کا نام رہ گیا، جن کی شریعت و سنت میں کوئی اصل نہیں۔

اس کا دو ہر اضرار میں کوچھ پہنچا، اول تو یہی دو طبقے جو اصلاح مسلمین کے کفیل تھے، خود ان کا مجروح ہو جانا ایک بست بڑا لیہ تھا، دوسرے ان دونوں کے اختلاف میں شدت اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوششیں جنہوں نے مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا۔ اس سے زیادہ اشد ایک اور افادہ یہ پڑ گئی کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے گئے جو ان دونوں طبقوں سے بیزار اور دونوں سے بر سریکار ہو گئے، ان کے پاس خود اتنی علمی یا عملی صلاحیت نہ تھی کہ ان دونوں طبقوں سے آزار ہو کر برآ راست قرآن و سنت کی تعلیمات کو صحیح سمجھ کر عمل کو لیتے، اور جن کے ذریعہ یہ دُلت حاصل ہوتی ان سے بیزاری پیدا ہو کر ان کی مثال اس بیمار کی سی ہو گئی جو خود اپنے علاج کو نہ سمجھتا ہے اور نہ اس پر قادر ہے اور سارے حکیموں پر اکمزدگی سے بیزار ہو جائے، ایسے حضرات نے علم دین کے محقق اور ماہر اسلام مذہ سے بیزاری کے نتیجے میں علم دین حاصل کرنے کے لئے صرف دینی کتابوں کے مطالعے پر اعتماد کیا، اور بہت سے قرآنی مسائل میں ایسی راہوں پر پڑ گئے ہو جہور امت کی راہ سے مختلف ہے، اس طرح دین میں ترمیم کا ایک نیا شاخصہ پیدا ہو گیا، ان میں سے کچھ لوگوں نے علماء دین کو اپنے ازلamat و اعزازات اور استنبز اور تفسیر کا ہدف بنالیا اور کچھ لوگوں نے صوفیاء کرام کو اور بعض نے دونوں کو۔

غار حرام میں جا کر عبادت میں مشغول رہنے کی رغبت پیدا ہو گئی تھی۔ (جیج بخاری)  
اویاء اللہ میں بھی شاذونا در کچھ حضرات ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو بغیر مجاہدہ  
و ریاست کے یہ الفعام مل گیا۔

### نفسانی خواہشات کی دو قسمیں

صوفیائے کرام کی زبان پر نفس کشی اور خواہشات نفس کی مخالفت کی آکیدہ میں بار بار  
آتی ہیں۔ جو لوگ ان کی اصطلاحات سے واقف نہیں وہ اس کو عام قرار دے کر رحمانیت  
میں .... داخل سمجھتے اور ان حضرات پر اعتراض کرنے لگتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ  
خواہشات نفس کی دو قسمیں ہیں ایک حقوق نفس دوسرے حظوظ نفس۔ حقوق نفس وہ  
چیزیں ہیں جن پر نفس کی بقاء موقوف ہے جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، حرکت، اسکون جنی  
تفاضلاً کو بقدر ضرورت پورا کرنا یہ حقوق نفس ہیں جن کا پورا کرنا صرف جائز نہیں بلکہ  
مطلوب شرعی ہے اور خاص حالات میں واجب وفرض ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ان  
کے پورا کرنے کی آکیدہ آتی ہے رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔

﴿... إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حُقْقًا وَإِنَّ لِعِنْكَ عَلَيْكَ حُقْقًا﴾

وإن لزوجك عليك حقاً و إن لعينك عليك حقاً

تیرے نفس کا بھی تیرے ذمہ حق ہے تیری آنکھ کا بھی تیرے ذمہ حق ہے کہ  
کسی وقت نیند کے ذریعہ اس کو آرام دے اور تیری بیوی کا بھی تیرے ذمے حق  
ہے۔

ان حقوق کا ترک کرنا رحمانیت ہے جو تعلیمات اسلام کے خلاف ہے۔ ہاں  
دوسری قسم حظوظ نفس ہے یعنی نفس کی وہ لذتیں جو ضرورت بقاء نفس اور بقاء نسل سے  
زاںدہ ہوں۔ صوفیائے کرام کی اصطلاح میں نفس کشی اور مخالفت نفس سے یہی قسم مراد ہے  
کہ انسان غیر ضروری نفسانی لذتوں کا خونگرہ ہو کیونکہ اسی راستے سے انسان گناہوں کا شکار  
ہوتا ہے۔ اور یہ کلام صرف صوفیائے کرام کا نہیں قرآن و سنت کی پیشان نصوص اس پر شاہد

ہیں اس جگہ ایک ہی آئیت مثال کے لئے کافی ہے۔

﴿وَأَمَّا مِنْ حَافِظِ مَقَامِ رَبِّهِ وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهُوَىٰ فَإِنَّ  
الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾

جو ذراللہ رب کے سامنے (حباب کے لئے) کھڑا ہونے سے اور اس نے  
روکا پہنچنے نفس کو فواہشات سے توجہ ہی اس کا الحکما ہے۔

قرآن و سنت کی اصطلاح میں لفظ ہوئی میں جو بہنی کے بالقابل استعمال ہوتا ہے  
اس سے مراد وہی ہوائے تفصیلی ہے جو حظوظ کی قسم ہے۔ اسی سے بچنے کے لئے  
مجاہدات اور ریاضات کی ضرورت پیش آتی ہے۔

### مجاہدہ کی حقیقت

یہ ہے کہ ناجائز کاموں اور گناہوں سے بچنے کے لئے بعض جائز کاموں کو بھی  
ترک کرنے کی عادت ڈالی جائے ایسے مجاہدات خود مقصود نہیں ہوتے جب نفس پر قابو یا  
لینے کا اطمینان ہو جائے ترک کر دئے جاتے ہیں، صوفیاء کرام کے واقعات شب  
بیداری، فاقہ کشی، ترک کلام، ترک اخلاق وغیرہ یہ سب اسی طرح کے مجاہدات ہیں۔

### مجاہدہ کی حقیقت ایک مثال میں

میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد نیشن صاحب "جو قطب عالم حضرت مولانا شرید  
احمد گنگوہی" کے مرید اور جامع کمالات حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب "پٹی" کے شاگرد  
تھے۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب "پٹی"  
دارالعلوم دیوبند کے طالب علم بچوں سے کچھ دیر تک خوش طبعی کی بائیں کرتے رہے تو والد  
صاحب "نے سوال کیا کہ حضرت اکابر سلف سے زائد کلام سے بچتے کے بارے میں ہی بڑی  
خت مآکید ممنقول ہیں۔ ان کی اصلی حیثیت کیا ہے؟ حضرت مولانا والد صاحب کے  
ہاتھ میں سے ایک کتاب لے کر اس کے ایک درق کا گوشہ موزریا اور پھر کتاب والد صاحب

کو دے دی کہ یہ مژا ہوا اور ق سید حاکر دو۔ والد صاحب نے بار بار سید حاکیا مگر وہ پھر مژا آتھا۔ حضرت مولانا نے پھر وہ کتاب لے کر ورق کے اس گوشے کو اس کے مقابل سمت میں سورڈیا اور پھر والد صاحب کو کتاب ری کہ اب سید حاکر دو۔ والد صاحب نے سید حاکر دیا تو ورق اپنی جگہ سید حاکی بیٹھ گیا۔

اس مثال کے بعد فرمایا کہ بس ترک کلام ترک طعام، ترک منام وغیرہ کے مجاہدات کی میں مثال ہے کہ مقصود تو استقامت اور سید حاکیا ہے مگر عادۃ نفس اس وقت تک سید حاکیا نہیں ہوتا جب تک اس کو دوسرے رخ پر بالکل نہ موڑا جائے، وہ حلال کھانے اور جائز سونے اور حلال کلام پر صحیح مستقیم ہو گا جبکہ اس کو کچھ عرصہ کے لئے بالکل ترک طعام، ترک منام، ترک کلام کا ایسا خونگر بنا لایا جائے کہ حقوق نفس اور ضرورت سے زائد ان چیزوں کا استعمال نہ کرے اور جب وہ خونگر ہو جائے تو جائز و حلال چیزوں کا ترک پسندیدہ نہیں رہتا بلکہ سنت کے مطابق حلال چیزوں کا شکر کے ساتھ استعمال اور حرام سے اجتناب ہی اصل حالت مقصودہ محدود ہے۔

### علماء طبائع

كتب شریعت کو پڑھ کر حلال و حرام اور مستحب و مکروہ کا علم تو حاصل کر لیتے ہیں جو بہت بڑی نعمت ہے لیکن ان چیزوں کی عملی پابندی یہ دونوں مجاہدات کے نہیں ہوتی بتول

علمیہ

جانتا ہوں ثواب طائفت وزہد

پر طبیعت ادھر نہیں آتی!

اس نے جس طرح علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے اسی طرح اس پر عمل کی عادت ڈالنے کے لئے ضروری مجاہدات بھی لازم ہیں، اہم کے تمام علماء ربانی کا یہی طریقہ رہا ہے اور ہم سے بالکل قریبی دور اکابر علماء دیوبندی حضرت گنگوہی "حضرت نانو توی" حضرت

شیخ اللہ اکبر حضرت حکیم الامت تھا توی وغیرہم کے جو علمی اور عملی کمالات دنیا میں صرف ہیں وہ صرف کتابیں پڑھنے پڑھانے کے نتیجے میں نہیں بلکہ ان کے ان مجاہدات کے نتیجے ہیں جو انہوں نے اپنے ہوئی سے بچنے کے لئے اختیار فرمائے اس زمانے کے مناسب مجاہدات کی تفصیل انشاء اللہ اکبر و محس میں آئے گی۔

## مقام محبت

### عشق ہی زندگی کا سوز عشق ہی زندگی کا ساز

جن باطنی اعمال کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے ان میں سے ایک اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت ہے۔  
قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿وَالذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حِبَّةَ اللَّهِ﴾

”اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں“  
اور آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا يَوْمَنْ أَحَدُ كُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مَا سُواهُمَا (أو كمالاً)﴾

”وَتَمْ میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کا رسول اس کے لئے ہر ماوسے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔“

ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کی تحصیل ہر مسلمان پر فرض

محبت کا دعویٰ کر دینا تو بہت آسان ہے، اور ہر شخص یہ زبانی خدمت انجام دے سکتا ہے

لیکن وَ كُلُّ يَدْعَى حُبًا لِلَّيْلِي وَ لِيلَى لَا تَقْرَهُمْ بِذَا كَا

اصل ریکھنے کی وجہ یہ ہے کہ محبت کی کچھ حقیقت بھی دل میں موجود ہے یا نہیں۔ دنیا کی ہر جیزگی طرح محبت کی بھی ایک علامت ہے اور وہ علامت ہے محبوب کی اطاعت۔  
إِنَّ الْمُحْبَّ لِمَنْ يَحْبُّ مُطِيقٌ

ای حقیقت کو قرآن کریم نے اس طرح واضح فرمایا ہے کہ

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَخْبُونُ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحِبِّكُمُ اللَّهُ﴾

”آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری ایجاد کرو اللہ تم کو محبوب رکھے گا۔“  
اب سوال یہ ہے کہ یہ محبت حاصل کیسے ہو؟ اس سلسلے میں سب سے پہلا قدم یہ  
ہے کہ انسان اپنے دل کو دوسرا محبوب سے خالی کرے۔ صوفیاء کرام ”نے بالکل درست  
فرمایا ہے کہ قلب ایک ایسا برتن ہے جس میں دو چیزوں میں یک وقت جمع نہیں ہو سکتیں دل کو  
اللہ تعالیٰ نے خالصتاً اپنے ہی لئے بنایا ہے۔ اب اگر یہ دل دنیا کی اور جاہ و مال کی محبت سے  
بہرنا ہو تو اس میں اللہ کی محبت کیسے آئے؟“

حکیم الامت حضرت تھاولی قدس سرہ ایک مرتبہ خانقاہ سے گمراہ ہے تھے مجھے  
بھی اس طرف جانا تھا میں بھی ساتھ ہو لیا، راستے میں چلتے چلتے اچانک رکے اور جب سے  
کافر اور پیش نکالی پھر کچھ لکھ کر اسے جیب میں ڈال لیا۔ پھر خود ہی مجھے سے پوچھا ”مجھے  
مولوی شفیع! کیا بات ہوئی؟“ میں نے انکار کیا تو فرمایا کہ: ”دل کا بوجھ کافر ڈال دیا۔ ایک  
کام یاد آیا تھا جو خانقاہ میں ولپس آگر کرنا ہے۔ نہ لکھتا تو دل میں کھٹکتا رہتا، اب دل فارغ  
ہے۔“ سپھر فرمایا کہ: ”دل کو اللہ نے اپنے لئے ہی بنایا ہے۔“

لہذا دل کا صحیح مصرف اللہ کی یاد ہے، بقدر ضرورت و مگر اشیاء کے خیال میں مضافات  
نہیں، لیکن دل کو دنیوی امور ہی کی محبت اور انہی کی نگر سے معمور رکھنا غلط ہے۔ انبیاء  
و اولیاء میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ دنیوی کام وہ بھی کرتے تھے اور ہم بھی کرتے ہیں،

مگر وہ ”دست بکارو دل بیمار“ کے مصادق تھے۔ خالص دنیا کے کام انجام دینے وقت بھی ان کا تائب اللہ کے ذکر اور اس کی یادیں محو ہوتا تھا، اس کے بر عکس ہمارا حال یہ ہے کہ ان کاموں میں ہمارے ہاتھ پاؤں توکم صرف ہوتے ہیں مگر دل ہم وقت دنیا ہی میں مشغول رہتا ہے۔

حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آنحضرت ﷺ کی گھر بلو زندگی کیسی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ﷺ اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تھے جس طرح دنیا کے سب مرد، لیکن فرق یہ ہے کہ تمام دنیوی امور انجام دینے کے ساتھ ساتھ جب کان میں اذان کی آواز پڑتی تھی تو

### ﴿مر کان لم یعرفنا﴾

”اس طرح اللہ کرپے جاتے تھے یہی ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔“

مشہور محدث امام ابو داؤد رض کے اساتذہ میں سے ایک بزرگ حداد (لوہار) تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ گرم لوہے پر ضربیں لگاتے لگاتے جس وقت اذان کی آواز کان میں پڑتی تو اگر بخوبی راستے اور احتمالیا ہوا ہوتا تو اسے وہیں پیچھے کی طرف چھوڑ دیتے تھے اور اس ایک ضرب کو کام میں لانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔

حضرت طلحہ رض نے ہری خطر قم صرف کر کے ایک باعث لگایا تھا، ایک دن ویکھ بھال کے لئے باعث میں گئے ذرا فرمت میں تو نماز کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک پرندہ اگر کھجوروں کے خوشیں میں الجھ گیا۔ اور پھر پھر لگانے لگا۔ حضرت طلحہ رض کی نگاہ اس پر پڑی تو وہیں کچھ دیر کے لئے نماز سے بٹ کر اس طرف متوجہ ہو گیا۔ سلام پھیر تو عنبر ہوا اور جا کر حضرت عثمان رض سے کہا کہ یہ باعث مجھے اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے اس لئے میں اسے صدقہ کرتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ باعث نوہزار میں فروخت ہوا۔ (موطا امام راہ)

تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کیلئے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دل کو غیر اللہ کی محبت سے فارغ کیا جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ”معرفت“ کی کوشش ہے۔ عقلی طور سے انسان غور کرے تو کسی کے ساتھ محبت کرنے کے عموماً چار اسباب ہوتے ہیں۔ ۱۔ حسن

و جمال '۲ - فضل و مکمل '۳ - ملک و مال اور ۴ - جو دونوں اور یہ چاروں چیزوں ذات بذری تعالیٰ میں اس درجہ کامل طور پر پائی جاتی ہیں کہ کسی اور میں نہیں پائی جاسکتیں اخلاقوں میں جمال کمیں ان میں سے کوئی چیز موجود ہے وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے لہذا عقلانی اللہ سے زیادہ محیوبیت کا حقن کوئی نہیں۔  
حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ

”من عرف اللہ لم يحبَّ غَيْرَهُ وَ مَنْ عَرَفَ الدِّنَّى زَهَدَ فِيهِ۔“

”بَعْدَ اللَّهِ مَعْرِفَةً حَاصِلٌ ہُوَهُ اَسَّكَنَ سَوْا كُسْكَنِي سَبَقَتْ مَحْبَّتْ نَمِيْسَ كَرَّهَ گَا اُورْ جُوْخُضْ دَنِيَاكِي  
حقیقت پہچان لے وہ اس بے کنارہ کشی اختیار کرے گا۔“

امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا ہر زرہ معرفت حق کارست ہے۔ جس مخلوق پر بھی تفصیلی نگاہِ ذا الٰوہ اپنے خالق کی عظمت پر دلالت کرے گی۔

محبتِ الہی کے حصول کا تیراطریقہ ”ذکرِ لسانی“ ہے انسان اگر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرے تو رفتہ رفتہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ”ذکر“ کے دوران اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ زہن اور دل زیادہ سے زیادہ ”ذکر“ ہی کی طرف متوجہ رہے۔ دوسرے خیالات میں نہ لٹکے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی فرماتے ہیں کہ طریق سلوک میں تبعیت خاطر رکھنا اور مشوشاں سے دل کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ غیر اختیاری انکار میں تو مضاقة نہیں لیکن بقول حضرت تھانوی ”غیر ضروری انکار دل کا سنتیا نہ اس کر دیتے ہیں۔“

آخر میں یہ واضح کرو ڈا ضروری ہے کہ مقامِ محبت کے حصول کا اصلی طریقہ کسی اہل اللہ بزرگ کی طویل محبت ہے اپنے آپ کو کسی مرشد کا اہل کے حوالہ کے بغیر عموماً یہ مقام حاصل نہیں ہوا کیونکہ ان مقامات کو حاصل کرنے کے طریقے مختلف لوگوں کے اختلاف طبائع کی مناسبت سے مختلف ہوتے ہیں اور انہیں کوئی شیخ کا اہل ہی پہچان سکتا ہے۔

[besturdubooks.wordpress.com](http://besturdubooks.wordpress.com)

## مقام شوق و انس اور

### رضا بالقضاء

جن اعمال باندہ کی تحصیل انسان کے زندہ ضروری ہے، ان میں سے ایک ”شوق و انس“ بھی ہے، یہ دو قوی علم تصور کی اصطلاحات ہیں۔ ”شوق“ کے معنی یہ ہیں کہ ”جو لوگوں کی صفت انسان کو حاصل نہیں ہے، اس کی طرف دل مائل ہو“ اور انس کا مطلب یہ ہے کہ ”جو لوگوں کی صفت انسان کو حاصل ہے اس پر دل مسرور ہو“۔ اگر انسان اپنے دل کی دنیا کو درست رکھنا چاہتا ہے تو اس میں یہ دونوں صفات ضرور موجود ہوئی چاہئیں۔

لیکن دل کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، جذبات کی اس پوشیدہ دنیا میں باساو قات دو متفاہی جیسے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ایسے وقت میں دل کو صحیح راستے پر قائم رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن چیز کا ”شوق“ قابل تعریف صفت ہے، لیکن اگر یہی شوق پڑی سے اتر جائے تو ”ناشرکی“ اور ”حد“ بھی بن سکتا ہے۔ اگر معاملہ صرف یہاں تک ہے کہ لوگوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو لائن درست ہے، لیکن اگر انسان اس کو زرا آگے بڑھا کر اپنی تقدیر کا شکوہ شروع کر دے تو یہی چیز ”ناشرکی“ ہو گئی، یا اگر اس کو... دوسرے کے پاس دیکھ کر جنے لگے تو یہی ”حد“ بن گیا۔

ای طرح اگر انسان اپنی کسی بھی پر خوش ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے خمیر کا طینان دسکون محسوس کرتا ہے تو یہ ”انس“ ہے، قابل تعریف ہے اور ایمان کی علامت ہے، چنانچہ

حدیث میں ارشاد فرمایا گیا:

﴿إِذَا سَرْتُكَ حَسْتَكَ وَسَاءَتْكَ سَيْئَتَكَ فَأَنْتَ مُوْمَنٌ﴾ (او)

کمال (۱۰)

جب تمہیں اپنی نیکی پر خوشی ہو اور اپنی برائی لگے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔

لیکن اگر اس سے خوبی بندی پیدا ہو جائے تو یہی "عجب" "بن جاتا ہے۔ جو دل کی  
ہلاکت کا شاید سب سے بڑا سامان ہے مطلب یہ ہے کہ اپنی کسی بھی صفت پر ہونا اس نقطے  
نظر سے ہونا چاہئے کہ اللہ نے اپنے قضل و کرم سے مجھے یہ چیز عطا فرمادی ورنہ میں خود اس  
کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو قیامت تک نہ کر سکتا لیکن اگر آدمی خوش اس لئے ہوتا ہے  
کہ یہ قابل تعریف صفت میرا اپنا کارنامہ ہے اور اس سے میرے مقام کی بلندی کا پتہ چلتا  
ہے تو بس یہی خوشی "عجب" "بن گئی" اور سارے کے کرائے پر پانی پھر گیا۔

دل کی دنیا کے یہ حالات اور ان کا باہمی فرق اتنا باریک ہوتا ہے کہ بسا او قات انسان  
کو پتہ بھی نہیں چلا کہ بات کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے۔ اسی وجہ سے اصلاح باطن کے لئے  
کسی مرشد کا مل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بغیر منزل مقصود تک پہنچنا عموماً مشکل ہوتا

ہے۔

### رضابالقناع:

قلب کے جن اوصاف حمیدہ کو حاصل کرنا ضروری ہے ان میں سے ایک "رضابالقناع"  
بھی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو مصیبت کے وقت مسلم اور کافر کے درمیان احتیاز پیدا  
کرتی ہے اور جس سے انسان کے غم و الم سکون و الہمیان سے بدل جاتے ہیں۔ اس کا  
مطلوب یہ ہے کہ انسان اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر ہر حال میں راضی رہے اور اپنی تقدیر کا  
شکوہ نہ کرے نہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرے بلکہ خوشی ہو یا رنج تکلیف ہو یا  
راحت ہر آن یہ بات مستحضر رکھے کہ قدرت کی مصلحتوں کے تحت یہی چیز مناسب  
تھی۔

اس پر عام طور سے ذہنوں میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ رنج سے رنجیدہ اور خوشی سے خوش ہونا تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو درد ہو اور وہ اس پر کر لئے کے بجائے خوشی کا اطمینان کرے اور اگر کوئی شخص ایسا کرے مجھی تو وہ یا قصع ہو گایا فطرت کے ساتھ بغاوت۔

اس اعتراض کے جواب میں عارفین نے فرمایا ہے کہ ”رضاء بالقضاء“ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آدمی کو اساب غم سے غم نہ ہو یا وہ اساب غم سے الناصرہ ہو بلکہ رضا بالقضاء کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان تقدیر پر مفترض نہ ہو، اللہ کا شکوہ نہ کرے ورنہ تکلیف کو تکلیف سمجھا ”رضاء بالقضاء“ کے خلاف نہیں۔ ہاں البتہ بعض صوفیاء کرام پر یہ ”رضاء بالقضاء“ بطور حال طاری ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ حال ان کی طبیعت ثانیہ بن جاتا ہے اس کے بعد واقعہ انہیں تکلیف سے تکلیف نہیں ہوتی، وہ رنج اور مصیبت میں بھی مست اور مسرور رہتے ہیں، لہذا جن صوفیاء سے یہ منقول ہے کہ وہ اساب غم پر خوش ہوئے، اسی غلبہ حال پر محمول ہے۔ جو مخدود اور قادر قابل تعریف تو ہے، لیکن مطلوب و مقصود نہیں۔

ہر کیف! ”رضاء بالقضاء“ کا اصلی مضموم یہ ہے کہ رنج و مصیبت کے حالات میں بھی انسان کے منہ یادل سے کوئی شکایت کا کلمہ نہ نکلے۔ اس کے بجائے اس کی زبان ہر وقت اللہ کے شکر اور اس کی حمد ہی سے ترومازہ رہے، چنانچہ سرکار دو عالم یعنی کی تلقین یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی رنج و تکلیف پیش آئے اسے یہی کہنا چاہئے کہ:

”الحمد لله على كل حال“

”ہر حال میں تمام تعریفِ اللہ کے لئے ہیں۔“

یا رجس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے

اس تعلیم کی عقلی وجہ یہ ہے کہ بیچارے انسان کا علم نہایت محدود ہے اور حقیقت میں اپنے بھلے برے کو نہیں پہچانتا۔ بسا اوقات وہ کسی چیز کو اپنے لئے اچھا سمجھتا ہے وہ

درحقیقت اس کے لئے بڑی ہوتی ہے، یا کسی چیز کو برآجھتا ہے مگر وہ اس کے لئے بھی ہوتی ہے، اگر انسان اپنے گرد و پیش پر نظر ڈال کر دیکھے تو اس کے سینکروں شواہد اسے روزمرہ کی زندگی میں مل جائیں گے۔

ایک صاحب کو غیر خشم ہندوستان میں بریلی سے طوفان میں میں سوار ہونا تھا۔ گاڑی رات گئے وہاں پہنچتی تھی، وہ گاڑی کے انتظار میں وینگ روم کے اندر سو گئے اور اشیشن ماسٹر سے کہ دیا کہ گاڑی کے وقت مجھے جگا دیا جائے۔ اتفاق سے اشیشن ماسٹر کو یاد نہیں رہا اور گاڑی نکل گئی۔ یہ اٹھ کر اشیشن ماسٹر بست خنا ہوئے لیکن تھوڑی دریں پڑتے چلا کہ وہ گاڑی ذرا آگے جا کر ایک شدید حادثہ کا شکار ہو گئی۔ یہ صاحب گاڑی لٹکنے کو اپنے حق میں برآجھہ رہے تھے مگر معلوم ہوا کہ اگر گاڑی نہ لٹکتی تو زندہ پتے کا کوئی سوال نہ تھا۔

اس واقعہ میں تو فوراً اپنے چل گیا کہ جس چیز کو برآجھہ رہے تھے وہ درحقیقت بھی تھی۔ بعض اوقات انسان کو یہ پڑھ بھی نہیں چلتا۔

میرے لڑکے ٹھوڑی سلمہ جب چھوٹے سے بچے تھے تو ایک دن میں نے اُنہیں دیکھا کہ مکان کی چھت کے بالکل کنارے کھڑے ہوئے باہر کو جھک رہے ہیں، صورت حال کچھ لئی تھی کہ اگر وہ ذرا اور آگے کو جھکتے تو یہی گرجانے میں کوئی کسر باقی نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر آواز دے کر اُنہیں پیچھے ہٹنے کو کہتا ہوں تو کہیں گھبر اگر آگے کو نہ لڑک جائیں۔ اس لئے میں کچھ کے بغیر دبے پاؤں ان کے پیچھے کی طرف سے گیا اور قریب پہنچ کر اُنہیں اپنی طرف کو زور کا جھٹکا دیا، وہ اندر کی طرف اگرے اور روشن اشروع کر دیا۔ وہ بھگھے کر باپ نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے کہ پکڑا گرا دیا۔ لیکن حقیقت میں کسی «ظلم»، ان کی جان بچانے کا ذریعہ بن گیا، انہیں کم از کم پچپن تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ باپ نے یہ ظلم کیوں کیا تھا؟ لذا جن چیزوں سے ہم اس دنیا میں رنجیدہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، درحقیقت وہ اپنی بے خبری اور جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہیں۔ ورنہ یہ تمام واقعات مصلحت و حکمت پر ہتھی ہوتے ہیں۔ بعض کی حکمت ہمیں آگے چل کر معلوم ہو جاتی ہے اور بعض کی معلوم نہیں ہوتی۔

”اگر انسان کو اپنی اس بے خبری کا مستھنارہ ہے تو وہ یہ شرائی پر رضاہ ہے  
گھاٹر لند سے یا اس کی لفڑی سے حکایت کے جذبات اس کے دل میں کبھی پیدا  
نہ ہوں گے۔“

لزار ضاہ القناء کے مقام کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات  
پر غور کیا جاتا رہے۔ جنہیں انسان ابتداء میں اپنے لئے مضر بھاتا ہے مگر بعد میں وہی مفید  
ثابت ہوتے ہیں۔

## جو چیزیں دل کو تباہ

کر دالیں

اب تک اعمال بادھیں سے فرائض کا ذکر ہوا ہے جن کا حاصل کرنا انسان کے ذمہ ضروری ہے۔ عام صوفیاء انہیں ”فضائل“ کہتے ہیں اور امام غزالی نے ان فرائض کا نام ”منجیات“ (نجات دینے والی چیزیں) رکھا ہے۔ اس کے بالمقابل اعمال بادھیں سے کچھ اعمال حرام و ناجائز ہیں۔ عام صوفیاء انہیں ”رذائل“ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور امام غزالی آنہیں ”مبلکات“ (ہلاک کر دینے والی چیزیں) قرار دیتے ہیں۔

سلوک و طریقت کا خلاصہ دو ہی چیزیں ہیں ”فضائل“، کو حاصل کرنا جسے صوفیاء کرام ”تحلیہ“ کہتے ہیں اور ”رذائل“ سے بچنا جسے ”تحلیہ“ کہا جاتا ہے۔ مشارغ طریقت کے ذوق اس معاملہ میں مختلف رہے ہیں کہ سالک طریقت کے لئے تحلیہ مقدم ہے یا تخلیہ؟ بعض حضرات صوفیاء کا مذاق تو یہ ہے کہ سالک کو سب سے پہلے ”تخلیہ“ کی کوشش کرنی چاہئے یعنی دل کو باطنی رذائل اور مبلکات سے پاک کرنا چاہئے۔ اس کے بعد ”تخلیہ“ یعنی ”فضائل“ کی تحصیل آسان ہو جائے گی، وہ اس کی مثال اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی زمین میں پھل پھول آگانا چاہتا ہے تو یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اس زمین کو ہمارا کرکے گندگی اور جھاڑ جھنکاڑ سے صاف نہ کر لیا جائے پہلے خس و خاشک سے زمین کو خالی کیا جائے گا اس کے بعد ہی اس میں پھل پھول کے بیچ بار آور ثابت ہو سکیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے دل کی دنیا میں ”فضائل“ کا

چمن کھلانا چاہتا ہے تو اسے پہلے دل کی زمین نے "رذائل" کے خس و خاشک کو نکالنا ہو گا پھر اس میں "فضائل" کے پھول کھل سکتی گے۔

صوفیائے کرام کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ "فضائل" کی تفصیل "رذائل" کو دور کرنے پر مقدم ہے۔ اس گروہ کا کہنا یہ ہے کہ "رذائل" کی مثال انہی ہرے کی سی ہے اور "فضائل" کی مثال روشنی کی سی اگر کوئی شخص انہی ہرے کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ اس وقت تک دور نہیں ہو سکے گا، جب تک وہاں کوئی شمع نہ جلائی جائے اور حرش روشن ہو گی، اور حرش اکافور ہو جائے گا۔ اسی طرح دل کی دنیا سے "رذائل" کا انہی ہر اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک اس میں "فضائل" کی شمع روشن نہ کی جائے۔ اور دل میں "فضائل" پیدا ہوں گے، اور "رذائل" خود بخود مت جائیں گے۔

بهر کف! اصلاح باطن کے یہ دونوں طریقے ہی صوفیاء کرام کے درمیان راجح رہے ہیں جو لوگ "تحلیہ" کو "تحلیہ" پر مقدم سمجھتے ہیں وہ ابتداء میں وظائف و اور اد کے بجائے ایسے عملی مجاہدات پر زور دیتے ہیں جن کے ذریعہ نفس کی خواہشات و جذبات پر قابو حاصل ہو۔ اس کے بر عکس جو حضرات "تحلیہ" کو مقدم سمجھتے ہیں ان کی زیادہ توجہ ذکر و تسبیح اور وظائف و اور اد پر رہتی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کوئی شیخ کامل ہی کرتا ہے کہ کس شخص کے لئے ان دونوں میں سے کوئی طریقہ زیارتہ مفید ہے؟

### تمام رذائل کی جڑ

اب تک ہم نے "فضائل" کا ذکر کیا تھا، اب مختصر "رذائل" کا بیان کرنا ہے، لیکن ان کی تفصیل سنتے سے پہلے یہ بات ذہن نہیں کرنی چاہے کہ دل کے تمام امراض تمام رذائل کی بیماریوں درحقیقت نفسی ہوں کی پیروی ہے۔ جسے قرآن کریم میں "ابتاع ہوئی" کہا گیا ہے۔ دل کی جس بیماری پر بھی آپ نظرِ الہی گے، اس کی بیماری وجہ بھی نظر آئے گی کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے آٹھے پرذائل کرے بس ہو جاتا ہے، اگر انسان اپنے نفس پر کمل قابو حاصل کر لے تو نہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو اور نہ اس کے دل میں کوئی باطنی

پیاری پیدا ہو، اسی لئے قرآن کریم اور حدیث میں اتباع ہو گئی سے بچنے کی بار بار آمیدس کی گئی ہیں، ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَبْعَدُ الْهُوَى فِي ضِلَالٍ كَعَنْ سَبِيلِكَ﴾

”اور تم ہوس کے بیچے نہ چلو کہ وہ تمہیں تمہارے راستے سے بھکارے“۔  
لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل باطنی پیاریوں سے پاک ہو۔ اور اس کے رذائل ختم ہو جائیں تو اس سے سب سے پہلے اپنے نفس کو قابو کرنے کی فکر کرنی چاہئے۔  
قرآن کریم پر غور کرنے سے نفس پر قابو حاصل کرنے کے تین طریقے سمجھ میں آتے ہیں، ایک طریقہ عام اور اجمالی ہے اور دو طریقے خاص اور تفصیلی اجمالی طریقہ تو یہ ہے کہ دل میں آخرت کی فکر اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا استحضار پیدا کیا جائے۔

قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهُوَى فَإِنَّ

الْحَسَنَةَ هِيَ الْمَوَى﴾

اور رہا وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو ہوس سے روکا تو حست یہ اس کا نہ کہا نہ ہو گا۔  
اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نفس پر قابو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا کے سامنے جو ولدی کا خوف پیدا ہو۔ جانتا تو ہر مسلمان ہے کہ مجھے ایک دن مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت جتنی تینی ہے؛ اتنی ہی کثرت کے ساتھ نگاہوں سے او جمل رہتی ہے، نفس پر قابو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس حقیقت کو دل میں اس طرح جاگزئیں کر دیا جائے کہ کسی بھی وقت خدا کے دربار میں حاضری کا تصور دل سے محونہ ہو، اور نیہ بات ”مراقب موت“ سے حاصل ہوتی ہے، انسان کو چاہئے کہ وہ دن میں کم از کم ایک مرتبہ پانچ دس منٹ نکال کر اپنی موت اور موت کے بعد کے احوال کا تصور کیا کرے۔ اور اپنے روزمرہ کے تذکروں میں موت کے ذکر کو بھی لازمی طور پر شامل کرے آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

﴿أَكْثُرُ وَاذْكُرْهَا ذِمَّةُ الْلَّذَّاتِ﴾

”لذتوں کو فتح کر دینے والی چیز یعنی موت کا کشت کے ساتھ ذکر کیجئے۔“  
یہ چیز دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرے گی اور اس کا لازمی نتیجہ یہ  
ہو گا کہ انسان کے لئے اپنی خواہشات نفس پر قابو بانا آسان ہو جائے گا۔  
یہ تو نفس پرستی کا ایک عام علاج تھا۔ اس کے علاوہ خواہشات نفس سے جو گمراہیاں  
پیدا ہوتی ہیں، وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ شہمات یعنی فکری اور نظریاتی گمراہیاں اور شهوت یعنی  
عملی گمراہیاں، قرآن کریم نے پہلی قسم کی گمراہیوں کا علاج یہ تجویز فرمایا ہے کہ:

﴿وَتُوَاصُّوا بِالْحَقِّ﴾

”اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کیا کرو۔“

اور دوسرا گمراہیوں کا علاج یہ تھا یہ تھا یہ کہ:

﴿وَتُوَاصُّوا بِالصَّبْرِ﴾

”یعنی ایک دوسرے کو ”صبر“ کی نصیحت کرتے رہو۔“

”صبر“ کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات نفس سے جو تکلیف ہوتی ہے اسے برداشت  
کیا جائے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صفت بغیر نیک محبت کے عموماً حاصل نہیں ہوتی، اسی لئے  
صوفیائے کرام اصلاح کے لئے کسی مرشد کامل کی طرف رجوع کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں  
قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مِعَ الصَّادِقِينَ﴾

الصادقین.

”لے ایمان والوں اللہ سے ڈر اور صادقین کی معیت اختیار کرو۔“

اس آیت میں تلایا گیا ہے کہ تقویٰ حاصل کرنے اور نفسانی خواہشات کو قابو میں  
کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ”صادقین“، یعنی صلحاء کی صحبت اختیار کی جائے۔

## زبان کی آفیں

ایک حدیث میں سرکار دو عالم ؑ نے "زبان" کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ:

(جُرمِ صغير و جُرمِ كبير۔)

"اس کا جسم تو پھونٹا سا بے مگر یہ جرم بڑے بڑے کرتی ہے۔"

اور حقیقت یہ ہے کہ انسانی جسم میں جتنے زیادہ گناہ زبان کی اس قدر تی مشین سے سرزد ہوتے ہیں، شاید ہی کسی اور عضو سے اتنے گناہوں کا کار تکاب ہوتا ہو اخیرت صدیق اکبر چشم کو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے ہیں، پوچھا گیا تو فرمایا کہ: (إن هذا أوز دني الموارد) اس چیز نے مجھے بہت سی ہلاکتوں میں بچلا کیا ہے۔

زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سے تو وہ ہیں جن کا گناہ ہونا سب جانتے ہیں، مثلاً جھوٹ تنبیث، اگالی گلوچ اور گانا بجانا وغیرہ۔ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں، اگر کوئی شخص ان کا کار تکاب کرتا ہے تو گناہ سمجھ کر کرتا ہے اول میں شرمندہ ہوتا ہے اور یہ امید رہتی ہے کہ کسی وقت اس گناہ سے نجات حاصل کریگا۔ لیکن زبان کے بعض سمجھیں جرام ایسے ہیں جن کے گناہ ہونے کا احساس بھی لوگوں کو نہیں ہوتا۔ اور جب یکار کو اپنی یماری کا شعور ہی نہ ہو تو اس کی صحت کی کیا خاک امید ہو سکتی ہے؟ اس لئے یہ جرام زیادہ خطرناک اور موجب ہلاکت ہیں، آج اسی قسم کے چند گناہوں کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

## اللائعنی باشیں

زبان ایک قدرتی میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو مرحت فرمائی ہے ناکروہ اس کو ایسے کاموں میں صرف کرے جو اس کے دین یادنیا کے لئے مفید ہوں۔ لہذا اگر اس کو کسی ایسے کام میں استعمال کیا جائے جو نہ دین کے لئے مفید ہونہ دنیا کے لئے تو یہ اس قدرتی میں کا بیجا استعمال ہے، اور اسلام میں اس سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، فضول اور بے فائدہ باتوں میں زبان کا استعمال کرنا ہر اعتبار سے ضروری ضرر ہے ایسی وجہ پر کہ حدیث میں آنحضرت ﷺ کے بارے میں مقول ہے:

﴿كَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذَرَ الْكَلَامَ طَوِيلَ الصَّمْتِ﴾

”آپ کم گواور زیادہ تر خاموش رہنے والے تھے۔“  
امام عظیم ابو حنیفہؓ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی انگوٹھی پر یہ قول نقش کرایا ہوا تھا کہ:

(قُلِ الْخَيْرُ وَ إِلَّا فَاصْمُتْ)

”نیک بات کو، ورنہ خاموش رہو۔“

علمائے دین میں حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب ﷺ (جو حضرات میان صاحب کے لقب سے معروف ہیں) عجیب شان کے بزرگ تھے، مجھ پر خاص شفقت فرماتے تھے، ایک روز میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ ”آج گفتگو عربی میں کہیں گے،“.... اس سے قبل چونکہ حضرت نے کبھی لکھی لئی فرمائش نہیں کی تھی اس لئے مجھے حرمت ہوئی تو حضرت ﷺ نے خود اس کی حکمت میان فرمائی کہ ”عربی میں بلا تکلف بولنے کی مش نہ تھی کوہے، نہ مجھے، اس لئے اس قید کی وجہ سے پائیں کم ہوں گی۔“ اور پھر فرمایا کہ ”ہماری مثل اس مسافر کی ہے جس کی روپیوں سے بھری ہوئی تھیں ختم ہونے لگی ہو، اب وہ ایک ایک روپیہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے۔“

## فضول مباحث

لایعنی باتوں ہی کی ایک قسم جس میں اہل علم بطور خاص بتلا ہو جاتے ہیں، فضول بحث و مباحثہ ہے جس کے پیچے کوئی فائدہ نہ ہو، ایک بحث و مباحثہ تو وہ ہے جس کا مقصد تحقیق حق ہوتا ہے، اور جو طالب علم کی خصوصیت ہے، وہ تو بلاشبہ جائز بلکہ صحیح ہے، مقولہ مشور ہے کہ ”طالب علم کے چون وچارند کند و صوفی کے چون وچارند“ ہر دو راہ چ راگاہ پاید رفت، لیکن یہاں میری مراد بحثوں سے ہے جن کے پیچے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

ایک مرتبہ دو بزرگ حضرت نظام الاولیاءؑ سے استرشاد کے لئے بخے سے ملنی پہنچے، حوض پر وضو کرنے پہنچے تو دونوں میں بحث چھڑ گئی کہ یہ حوض بڑا ہے یا بچھا والا فلاں حوض، کافی دیر تک جانیں سے ”والائل“ پیش کئے جاتے رہے، حضرت نظام الاولیاءؑ کو اس کی اطلاع ہو گئی، جب دونوں نماز کے بعد حاضر ہوئے اور مدعا عرض کیا تو حضرتؑ نے فرمایا۔ ”کیا فیصلہ ہوا؟ کونا حوض بڑا ہے؟ دونوں خاموش رہے تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ تمہارا علاج یہ ہے کہ دونوں حوضوں کی بیانش کر کے پہلے اپنی بحث کا فیصلہ کرو، اس کے بعد آگے بات ہو گی۔“

خوام میں بھی یہ مرض آج کل شدید ہو رہا ہے کہ دین کی ضروری باتوں سے مطلق بے خبر ہیں مگر فضول کی بحثوں میں لمحے رہتے ہیں۔ مجھے سے جب کوئی ایسے فضول سوال پوچھتا ہے تو میں جواب میں یہ حدیث لکھ دیتا ہوں کہ: ”من حسن إسلام المرء ترکه مala يعنی“ ”لیعنی انسان کے اسلام کی اچھائی کا یہ جز ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے۔“

## ۱۰۔ مراع و جدال

پھر جو بحثیں جائز اور مفید ہیں، ان میں بھی ایک بڑی آفت ”مراع و جدال“ ہے،

آج کل یہ وبا اس قدر عام ہو گئی ہے کہ بحث خواہ کتنی علمی اور مفید ہو، لیکن اس میں ایک دوسرے پر طعن و تشنج طزو و تعریض اور چوٹیں کرنے کے بغیر تقدیم کو تقدیم سمجھا ہی نہیں جاتا اور اس مقصد کے لئے طرح طرح کی ”مذبب“ گالیاں ایجاد کی جاتی ہیں، اور اس کو روایت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ امام مالک رض کا ارشاد ہے کہ

### ﴿المرء في العلم يذهب بنور اليمان﴾

علم میں جھکڑا کرنا ایمان کے نور کو زائل کر دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ”اگر کوئی کسی شخص کو خلاف سنت کام کرتے دیکھے تو کیا کرے؟“ فرمایا کہ ”زمری سے سمجھا دے اور جدال نہ کرے۔“

واقعہ یہ ہے کہ اس فقرہ بازی سے مسلمان کی دل آزاری کا انفرادی گناہ تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک زبردست اجتماعی مضارہ یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کے بाहی انتریق و انتشار کو ہوا ملتی ہے اور فرقہ بندی اور جماعتی تعصب کی جیسی منظبوط ہوتی ہیں۔ اگر علمی بحیثیں خالص علمی اندیشیں کی جانے لگیں تو مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کے موجودہ انتریق میں بڑی نمایاں کی واقع ہو گی۔

## مجاہدہ

جہادی الشانیہ ۸۲۰ھ کے "البلاغ" میں بتایا گیا تھا کہ انسان کے دل میں جو خواہشات پیدا ہوئی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک حقوق نفس در سے حظوظ نفس بحق نفس وہ چیزیں ہیں جن پر نفس کی بقاء متوقف ہے، جیسے کھانا پینا، سونا جائانا، حرکت و سکون اور جسی خواہش کا یقین ضرورت پورا کرنا یہ سب نفس کے حقوق ہیں جن کا پورا کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ خاص حالات میں فرض اور وابستہ ہے۔ ان حقوق کو "چھوڑنا" رہنمائی کے ذیل میں آتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔

دوسری قسم "حظوظ نفس" سے مراد نفس کی وہ لذتیں ہیں جو بقاء نفس اور بقاء نسل کی ضرورت سے زائد ہوں، صوفیاء گرام کی اصطلاح میں "نفس کشی" اور "میافت نفس" سے مراد اُنی لذتوں کو چھوڑنا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان غیر ضروری نفسانی لذتوں کا خوگزندہ بنے اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ میں توجہ دلائی ہے کہ

﴿وَأَمَّا مِنْ خَافِ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى﴾

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوِى .

"اور ہاؤہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے زرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو جنت ہی اس کا نہ کہا ہے"۔

قرآن و سنت کی اصطلاح میں ”صومی“، ”جو بدری“ کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اس سے مراد وہی خواہشات نفسلی ہیں جو ”ظوظ“ کی قسم میں داخل ہیں۔ انہی سے بچنے کے لئے ”مجاہدات“ اور ”ریاضتوں“ کی ضرورت پیش آتی ہے۔

”مجاہدہ“ کی حقیقت یہ ہے کہ ناجائز کاموں اور گناہوں سے بچنے کیلئے بعض جائز کاموں کو ترک کرنے کی بھی عادت ہالی جائے ایسے مجاہدات خود مقصود نہیں ہوتے بلکہ جب نفس پر قابو پالینے کا طمینان ہو جائے ترک کر دیئے جاتے ہیں۔

حضرت گنگوہی رض کے الفاظ میں ”مجاہدات“ کی مثال لی ہے جیسے کتاب کا ایک ورق دائیں جانب مڑ جائے تو آپ اسے لاکھ سیدھا کرنا چاہیں تو اس وقت تک سیدھا نہ ہو گا جب تک اسے بائیں جانب نہ موڑیں بالکل اسی طرح مجاہدہ کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ نفس کو حلال پر مستقیم اور سیدھا کیا جائے لیکن جو نفس حرام کا خونگر بنا ہوا ہو اسے حلال پر اسی وقت سیدھا کیا جاسکتا ہے جب کچھ روزا سے کچھ جائز و حلال کاموں سے بھی پرہیز کرایا جائے اسی لئے حضرت فاروق رض فرماتے ہیں:

﴿تَرْكَتِ اثْنَا سُعْدَةً أَعْشَارَ الْحَلَالِ خَشِيَّةَ الْحِرَامِ﴾

”ہم نے حرام کے ذرے حلال کے بھی وسیں سے نوٹھے چھوڑتے“۔

اور یہ درحقیقت رض کے اس ارشاد پر عمل ہے کہ:

﴿الْحَلَالُ بَيْنَ النِّحَامِ بَيْنَ وَبِنِيهِمَا مُشْتَهَاهَاتِ وَمِنْ

حَالِ حَوْلِ الْحَمْىٍ أَوْ شَكَّ اذْنِيقَعُ فِيهِ﴾ اور کما قال صلی

الله عليه وسلم.

”حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی“ اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشترکہ چیزوں ہیں اور جو شخص چراگاہ کے لارڈ گرد گھومتا ہے قریب ہوتا ہے کہ وہ اس میں جا پڑے۔

عام مشاہدہ ہے کہ جماعت کی تحریک تحریک پایندی (کہ تکمیر اول بھی فوت نہ ہو) اسی وقت ہو سکتی ہے جب آدمی نجۃ المسجد کا عادی ہو، لہذا اگر کوئی شخص ”نجۃ المسجد“ کی

(جو خالصتاً نقل ہے) اس لئے پابندی کرے کہ اس کی وجہ سے نماز بجماعت کی پابندی ہو سکے تو یہی "مجاہدہ" ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حرام و ناجائز گفتگو سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو کم گولی کا عادی بنائے تو اسی کو "مجاہدہ" کہا جائے گا۔

قدیم زمانے کے صوفیاء کرام نے اس مقصود کے لئے بڑے سخت اور پر مشقت مجاهدات کئے ہیں ان کے میان اجتماعی طور سے چار مجاهدات کا رونق تھا۔  
ترک طعام، ترک منام، ترک کلام، ترک اختلاط مع الانام۔

### ہمارے زمانے کا مجاہدہ

لیکن ہمارے زمانے میں قویٰ ان سخت مجاهدات کے تحمل نہیں رہے۔ اس لئے ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے مجاهدہ میں "ترک" کو "و تقلیل" سے بدل دیا ہے، حضرت تھانویؒ تھے کہ اس زمانے میں اگر کھانا پینا سوتا بالکل چھوڑ دیا جائے تو صحت کی خرابی کی وجہ سے فائدے کے بجائے اندازhan کا خطرہ ہے۔ اس لئے آج کا مجاہدہ یہ ہے کہ ان جیزوں میں قدر ضرورت تک کی کی جائے۔

پھر ان میں بھی حضرت تھانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں کھانے اور سونے کی کمی پر تو زور نہیں دیتا۔ کیونکہ اس کی حدود کا پتہ لگانا شکن کے لئے بھی مشکل ہوتا ہے۔ جب تک حالات کا بالکل صحیح صحیح علم نہ ہو سا لو قات اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ لبّۃ حضرتؒ کے میان دو جیزوں پر سخت پابندی تھی، تقلیل کلام اور تقلیل اختلاط یعنی آپ اپنے متسلین کو گفتگو کرنے اور لوگوں سے کم ملنے جانے کی مشن کرواتے تھے۔ لہذا جو شخص اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح چاہتا ہے، اس کے لئے ان دو جیزوں میں مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔

ان دونوں جیزوں پر پابندی کا عمل شروع سے چلا آتا ہے، امام ابو حیفہؓ نے اپنی انگوٹھی پر نقش کرایا ہوا تھا کہ:

﴿قُلْ لَا تَحِرِّرُ وَ إِلَّا فَاصْمُتْ﴾

بھلائی کی بات کو اور نہ خاموش رہو۔

حضرت سفیان ثوریؓ کے دو مختار مقوالے مشہور ہیں ایک یہ کہ

﴿أَقْلَلُ مِنْ مَعْرِفَةِ النَّاسِ﴾

لوگوں سے جان پہچان کم کرو۔ اور دوسرے

﴿أَكْثَرُ مِنْ مَعْرِفَةِ النَّاسِ﴾

لوگوں سے جان پہچان زیادہ پیدا کرو۔

لیکن درحقیقت دونوں میں تفاوت نہیں پہلے جملے میں لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کی طرف سے غلطت کا شکار ہیں اور دوسرا جملے میں وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے پابند ہیں اور اللہ سے لونگائے ہوئے ہیں۔

### ایک اہم بات

لیکن یہاں ایک اہم بات یاد رکھنے کی ہے۔ اور وہ یہ کہ لوگوں سے میل جوں کم رکھنا بلاشبہ "مجاہدہ" کا ایک اہم جزو ہے لیکن اس میں یہ نیت ہرگز نہ ہونی چاہئے کہ لوگ خراب ہیں اس لئے ان سے پریز کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ تو یعنی تکبیر اور خود پسندی ہے بلکہ دوسروں سے دور رہنے میں نیت یہ کرنی چاہئے کہ میرے اعمال خراب ہیں اور میں قلب کے انتہار سے بیمار ہوں اس لئے کہیں یہ میری بیماری دوسروں کو نہ لگ جائے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص دوسرا لوگوں کو اپنے سے خراب اور اپنے سے زیادہ فاسد و فاجر سمجھ کر ان سے الگ رہے گا تو اس تکبیر سے تو بازار میں پھرنا اچھا ہے۔

ہر حال ایک گولی اور لوگوں سے کم میل جوں کی عادت ڈال لی تو وقت بھی نپچے گا اور انشاء اللہ بتا سے گناہوں سے بھی خود بخود نجات مل جائے گی۔

"مجاہدہ" کے بعد اصلاح اعمال کے لئے کون کون سے اقدامات ضروری ہیں؟ ان

کلیمان انشاء اللہ آکھدہ ہو گا۔

# اصلاح کی طرف پہلا قدم

توبہ!

صد بار اگر توبہ شکستی باز آئے

تو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بالائی دنیا صحت مند ہو، دل کے امراض دور ہو جائیں اس کے نتیجے میں اسے رضاۓ خداوندی حاصل ہو اور وہ عذاب جسم سے محفوظ رہے تو اس کی راہ کا پہلا قدم ”توبہ“ ہے، اس لئے آج کی محفل میں اس سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔

عام طور سے لوگوں کے زہن میں ”توبہ“ کا مفہوم یہ ہے کہ صرف زبان سے ”استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب اليه“ کا ورد کر لین احوالاتکہ یہ بڑی صحت نہ لٹکنی ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے پچھلے گناہوں پر حسرت و تدامت ہو، حتیٰ الامکان اس کے سوراک کی فکر کی جائے اور آشمندہ کے لئے گناہوں سے بچتے کامل عزم ہو۔

امام غزالی رض نے اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ”خیر“ اور ”شر“ ملے جعلے رہتے ہیں اس میں ”تفویح“ کے دوائی بھی موجود ہیں، اور فتن و فنور کے بھی بہت سی چیزوں ایسی ہیں جو آپ کو نیکی کی ترغیب دیتی ہیں اور بہت

کی وہ ہیں جو آپ میں گناہ کرنے کا واعب ہے پیدا کرتی ہیں، آپ کا فرش یہ ہے کہ گناہ کے دوای کو مغلوب کر کے نیکی کے دوای کو اس پر غالب کر دیں۔

امام غزالی رض فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس "سوئے" کی سی ہے جس میں کھوٹ ملا ہوا ہو ظاہر ہے کہ ایسے سوتے سے آپ اس وقت تک کام نہیں لے سکتے جب تک کہ سوتے کو کھوٹ سے الگ نہ کر لیں جس کا واحد ذریعہ آگ کی چیز ہے، یہ آگ کی چیز ہی سوتے کو کھوٹ سے جدا کرتی ہے۔

امام "نمرات" ہیں کہ بالکل اسی طرح انسان کے "دین" کو "بد" سے ممتاز کرنے کے لئے بھی "چیز" کی ضرورت ہے، یہ "چیز" جو انسان کو کھوٹ سے نجات عطا کرتی ہے، وہ طرح کی ہے: ایک عذاب جنم کی چیز کیونکہ مومن کے لئے جنم کی آگ بھی درحقیقت کھوٹ ہی کو الگ کرنے کے لئے ہو گی بخش جانا مقصود نہیں ہو گی بلکہ پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرنا مقصود ہو گا (بخلاف کافروں کے کہ انہیں داعی طور پر جلتے ہی کے لئے جنم میں؛ الاجائے گا اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا

(وَهُلْ نَحَازِي إِلَى الْكُفُورِ) ۴۷

دوسری قسم کی "چیز" حضرت دندامت کی چیز ہے جو انہیں آگ ہے جو انہی میں کھوٹ کو پکھا سکتی ہے۔

امام غزالی رض فرماتے ہیں کہ انسان کو کھوٹ سے نجات حاصل کرنے کے لئے ان دو قسموں میں سے کسی ایک قسم کی آگ میں جلا ضروری ہے، اب اگر وہ چاہے تو جنم کی آگ کو اختیار کر لے اور اگر وہ بات اسے مشکل معلوم ہوتی ہے چنانچہ واقعہ تکمیل یہ بڑی مشکل ہے... تو اس کے سوا چارہ نہیں کہ اسی دنیا میں اپنے دل کے اندر حضرت دندامت کی چیز اور سوڈش پیدا کرے، اسی چیز اور سوڈش کا نام "توبہ" ہے۔

اسی لئے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ:

(أَنَّمَا التُّوْبَةُ النَّدَامَةُ.) ۴۸

"توبہ دندامت ہی کا نام ہے"۔

## توبہ کے شیئں درجے

اب حوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنامت کس طرح پیدا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنامت پیدا کرنے کا واحد ذریعہ "علم" ہے کیونکہ جب تک آدمی کوئی معلوم نہ ہو کہ میں لے جو کام کیا ہے وہ قطعاً مفترض ہے اپنے کے پر کبھی پیشہ میں ہو گی جس شخص کوئی پتہ نہ ہو کہ ہو چیز میں نے کھائی ہے وہ زبردستی اسے دنامت کیے ہو؟ دنامت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اسے یہ علم ہو کہ میں نے زبردستی کیا ہے اور یہ سیرے لئے تملک ہے۔

بالکل اسی طرح جب تک آدمی کوی علم نہ ہو کہ جو کام میں نے کیا ہے وہ بر انجام دا یا ضرر جنم کا موجب ہے اس وقت تک اسے اپنے اس فعل پر دنامت نہیں ہو سکتی لہذا اگر "دنامت" کی چیز پیدا کرنی ہے تو اس کا پہلا راستہ یہ ہے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا علم پیدا کیا جائے اور علم بھی شخص رسمی اور لفظی علم نہیں بلکہ ایسا علم ہو دل میں غریب آخرت خوف خدا اور گناہ کی لذت سے زیادہ اس کی نفرت پیدا کرنے اسی لئے قرآن کریم نے اللہ سے ورنے کو علم کی علامت قرار دیا ہے ارشاد ہے:

(أَنَّمَا يَخْشِيُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعِلْمَاءُ.)

"اللہ کے بندوں میں سے جانے والے ہی اس سے ذرتے ہیں"۔

جس شخص کے دل میں چوف خدا اور غریب آخرت نہ ہو، اور ہے گناہوں کی جاہ کاری کا علم لیتیں حاصل نہ ہو، وہ عالم نہیں، بد ترین جاہل ہے، مولانا ماروی فرماتے ہیں کہ جان جعل علم ماں ایں است ولنیں کہ مولانی سن کیم دریوم دیں؟

جب تک گناہوں کے پارے میں یہ پیغمبیری علم حاصل نہ ہو کرو، فنا ہری طور پر کئے ہی نظر فریب کیوں نہ ہوں حقیقت میں آگ کے انگرے ہیں، قرآن کریم کی اصطلاح میں انسان عالم نہیں کہا سکتا اور نہ اس کے بھرپور بھی حقیقت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس "علم" کو پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں غور کر کے گناہوں

کے وباں اور عذاب کا استحضار پیدا کیا جائے۔ اور ان کی جادہ کاریوں کو سراحت کے دریے  
ذہن میں خوب آئی طرح جہایا اور بخایا جائے، شیخ ابن حجر عسکریؑ نے ایک معقل  
کتاب میں گناہوں کی فرست جمع کر دی ہے جس میں تین سو گناہ کیہہ شمار کئے ہیں اس کا  
اردو ترجمہ بھی بھپ گیا ہے۔ حافظ زین الدین بن فہسم اور حافظ ابن حجر عسکریؑ کی بھی  
اس موضوع پر معقل کتائیں ہیں اور اردو میں حکیم الامت حضرت مولانا حماںیؑ نے  
این تصنیف اور بالخصوص "جزاء الاعمال" میں اس پہلو کو واضح فرمایا ہے "ان کتابوں کا  
مطالعہ مذکورہ "علم" کے حاصل کرنے کے لئے مفید ہو گا"۔

اس "علم" کے بعد وہنے کا درجہ "نیامت" ہے ظاہر ہے کہ جب کسی شخص  
کو کسی ناجائز فعل کے جادہ کرنے کا تینی علم حاصل ہو جائے گا تو اگر اس نے ماہنی میں وہ  
ناجائز فعل کیا ہے تو اس کو لازماً اپنے کئے پر "نیامت" اور پیشہ ہو گی۔

اس کے بعد تیسرا درجہ "سرارک" ہے جس کیلئے دو کام کرنے ضروری ہیں:

- (۱) آنکہ گناہ مذکورے کا پختہ عزم۔

- (۲) ماہنی میں جو گناہ ہوئے ہیں اگر وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی  
حق المقدور اولیٰ جگہ مثلاً اگر کسی کامل غصب کیا ہے تو اسے والیں کیا جائے، کسی کو ماتھیا  
زبان سے تکلیف پہچالی ہے تو اس کے بدالے کے لئے تیار ہو کر اس سے معافی کی  
درخواست کرنا وغیرہ۔

اور اگر وہ گناہ حقائق اللہ سے تعلق رکھتا ہو تو جن گناہوں کا تباہیا کفارہ سے سرارک  
مکن ہو، ان کا اسی طرز جزو کر کرنا، مثلاً اگر تمہاری بیاروڑے چھوڑوئے ہیں تو ان کی فنا  
کی جائے یا اگر تم کھاکر تو ذہی ہے تو اس کا کفارہ داکیا جائے۔

اور اگر گناہ اپاہی ہے کہ شریعت میں قضاء یا کفارہ کے دریے اس کسرارک مکن  
ہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوری عاجزی کے ساتھ استغفار کرنا۔

حضرت حماںیؑ کے یہاں ان تمام جیزوں کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور وہ  
ہمیشہ توبہ کے وقت سابق گناہوں کے سرارک کی ہر امکانی کوشش کام میں لائے کی تکمیل  
فرماتے تھے۔

آخر طریقے پر گناہوں سے توبہ کی جائے توبقول حضرت مولانا حماںیؑ کے  
ایک شخص چند لمحوں میں ولی کامل بن سکتا ہے اس لئے کہ حدیث میں سرکار دو عالمؓؑ کا  
ارشاد ہے کہ

**﴿التائب من الذنب كمن لا ذنب له﴾**

"گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جسے وہ شخص جس نے کہی گناہی دی کیا ہو۔"  
توبہ کا یہ دروازہ ہر شخص کے لئے اس وقت تک گھاٹا ہو اے جب تک نزع کی  
کیفیت اس پر طاری نہیں ہو جاتی اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔

## صبر اور اس کی فضیلیں

"توبہ" کے بعد دوسرا قدم یہ ہے کہ انسان اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کی اصلاح  
کی فکر کرے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اُسیں بجالائے اور جن  
چیزوں سے روکا ہے ان سے باز رہے ظاہری زندگی میں جن باتوں کا حکم دیا ہے اُسیں  
"امورات" کا جاتا ہے مثلاً نماز روزہ وغیرہ اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اُسیں  
"ضریبات" کہتے ہیں۔ مثلاً چوری، شرب نوشی وغیرہ۔ امورات اور ضربات علم فہرست کا  
موضوع ہیں اور یہاں زیر بحث نہیں ہیں۔

لبست بالکل اسی طرح ہماری باطنی زندگی کے بھی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا میں حکم  
روکا گیا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن سے روکا گیا ہے علم صوف کی اصطلاح میں پہلی قسم کے  
اعمال کو "فضائل" اور دوسری قسم کو "رذائل" کہا جاتا ہے۔ یہاں پہلے فضائل کیلیاں کیا  
جائے گا اس کے بعد "رذائل" کا۔

یہاں یہ بھی کچھ لمحے کہ جب انسان کو کسی "فضیلت" کی ایسی عادت پڑ جائے کرو  
اس کی طبیعت تائیہ بن جائے تو اس کو صوف کی اصطلاح میں "مقام" کہتے ہیں "المذاجب"  
ہم یوں کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے "مقام صبر" حاصل کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ  
"صبر" کا باطنی عمل جو "فضائل" میں سے ہے اس کے اندر خوب رلائی ہو کر اس میں بھی۔

طرح رچ بس گیا ہے۔

آج کی محفل میں "مقام صبر" کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں:  
"صبر" کے انوی معنی یہیں "روکنا" اور اسلامی اصطلاح میں "صبر" کی تعریف ہے:  
"لپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے روکنا"

اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم اور اسلام کی اصطلاح کے مقابلہ "صبر"  
کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی تکلیف یا رنج پر والدہ کیا جائے (صیکا کہ عام اکٹھوں میں  
"صبر" کا الفاظ اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے) بلکہ اس کے شرعی معنی میں دسجع اور ہمہ گیر  
ہیں اور اس میں دین کے تربیت اتمام شعبے واصل ہو جاتے ہیں لیکن وجہ ہے کہ قرآن کریم میں  
جس قدر تاکید "مقام صبر" حاصل کرنے کی کمی ہے اتنی تاکید شاہد ہی کسی اور چیز کی کمی ہو،  
اور اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہاتھا یا ایسا ہے کہ شاید کسی اور چیز کا نہ چایا گی ابھر چانچلوں ارشاد ہے:

﴿وَتُوصِّي الْحَقَّ وَتُنَاصِي الْبَصِيرَ﴾

"تم ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی صحبت کرو"۔  
اور فرمایا جاتا ہے:

﴿أَنْهَا لِي وَكِي الصَّابِرُونَ أَجْرٌ هُمْ بِغُرُورِ حِسَابٍ﴾

"جلادوں کی صبر کرنے والوں کو ان کے اجر سے بے حساب نواز جائے گا"۔  
"صبر" کی مندرجہ بالا امتیز کوئی بخشنے کے لئے تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہو گی۔  
یہ تو آپ جلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بھلانی کا مادہ بھی رکھا ہے "اور برائی کا بھی" ،  
قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَتَنَوَّهُ اَهَا﴾

"اللہ نے انسان کی بھان کو گناہ اور تقویٰ دوں سے باخبر رکھا ہے"۔  
اور چونکہ دنیا میں آزمائش کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان برائی کو چھوڑ کر بھلانی  
اختیار کرے۔ اس نے اللہ نے بھلانی کے مادے کی تقویت کے لئے ہمیں کچھ سامان مقرر  
فرمائے ہیں اور برائی کے مادے کو تقویت دیتے کے لئے بھی۔

انسان کو بھلانی کی طرف راغب کرنے کے لئے ایک قوت تو خود انسان کے دل میں  
رکھی گئی ہے یہی "نفس نوامر" کیا جاتا ہے اور عرف عام میں اس کا نام "خیز" ہے۔ ہر  
انسان جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک ان دیکھی تھوت اسے برائی سے روکتی ہے۔ یہی  
قوت "نفس نوامر" ہے اس کے علاوہ کچھ خارجی طاقتیں ہیں جو انسان کو بھلی پر آمدہ کرتی  
اور برائی سے روکتی ہیں یہی خارجی قویں "فرشته" ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرمادار حکومت ہے  
اور اس میں برائی کا مادہ پیدا ہی نہیں کیا گیا۔

دوسری طرف دو قویں لئی ہیں جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتی ہیں۔ ان  
میں سے ایک خود انسان کے باطن میں موجود ہے جسے "نفس نارہ" کہا جاتا ہے۔ یہ نفسی  
خواہشات کا وہ ضمیح ہے جو بیکیوں سے تیار ہاتے اور گناہ کی طرف ملک ہونے کا جذبہ پیدا  
کرتا ہے اور دوسری قوت "وشیاطین" کی ہے جنہوں نے اپنا متعصب زندگی ہی سے تواریخ ایسا  
ہے کہ انسان کو بیکیوں سے ہٹاکر برائیوں کی طرف لے جائیں۔

ان دو متعقاوں قوتوں کی کشاش ہی میں انسان کی آزمائش ہے اور اس آزمائش میں  
کامیاب ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان بھی کے تقاضوں کو بدی کے تقاضوں پر  
 غالب کر دے اور اسی کا نام شریعت کی اصطلاح میں "صبر" ہے۔

اس مقام کا حصول بخشن زبانی بمعنی خرج سے نہیں ہو بلکہ اس کے لئے بڑی خوش  
کرنی پڑتی ہیں "صوفیاء" کرام نے پیش کیا ہے اسی مقام کو حاصل کرنے کے لئے مقرر کئے  
ہیں یہ جو بست سے صوفیاء کرام سے محتول ہے کہ انہوں نے بعض مرتبہ مباحثات کو بھی  
رُک کر دیا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ان مباحثات کو حرام سمجھتے تھے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ  
انہوں نے نفسی خواہشات کو قابوں میں کرنے کے لئے ایسا کیا ہے۔

شروع میں انسان کو نفسی خواہشات کے دہانے میں خفت ہوتی ہے بلکہ جب  
ایک مرتبہ یہ کڑوی دوپی لے تو پھر فتنہ زد اللہ تعالیٰ اس کے لئے یہ کامیاب آسمان کر دیتا  
ہے، یہاں تک کہ اس کا نفس "نفس مطمئن" بن جاتا ہے لیکن اس میں بھلانی کے قضاۓ  
اس قدر غالب ہو جاتے ہیں کہ بدی کے قضاۓ ان کے سامنے بالکل مژده اور مسلح ہو کر رہ  
جائتے ہیں اسی بات کو آخریت میانچے نے اس طرح تعبیر فرمایا ہے کہ:

﴿لِمَنْ يَتَصَبَّرُ بِصَبْرٍ هُوَ اللَّهُ﴾

”جو شخص مقام صبر کے پیچنا چاہے انہوں نے صبر کے دینا ہے“۔  
اور جس شخص کو یہ نعمت حاصل ہو جائے اس کے بازے میں سرکار پیش کا ارشاد  
یہ ہے کہ

﴿لِمَيْوَتْ أَحَدْنَعْمَةً أَوْسَعْ مِنَ الصَّبْرِ﴾

(او کھماقال)

”کسی شخص کو صبر سے زیادہ وسیع فتح کرنی نہیں رہی گی۔“

اس مقام کو حاصل کرنے کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی محبت اختیار کی  
جائے جنہیں ”صبر“ کی نعمت حاصل ہے تجھے شاہد ہے کہ انسان کے ماہول اور محبت سے  
زیادہ اس کا سری کوئی نہیں ہوتا۔ اگر انہاں ”صابرین“ کا احتجال اختیار کرتے تو فتح رفتہ خود  
بھی ”صارب“ میں جائے گا۔

اسکے علاوہ مقام صبر حاصل کرنے کا انفرادی طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دل میں کسی  
گناہ کا خیال پیدا ہو، اس کے ساتھ اس عذاب اور وعید کا تصور جائے ہو۔ قرآن کریم اور  
احادیث میں اس گناہ کے کرنے والے کے لئے جیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنی  
موت ”اجمام اور قبری کمال“ کو دار کرے، اسی لئے آنحضرت ﷺ نے تلمیذین فرمائی ہے کہ

﴿أَكْتُرُوا ذِكْرَهَا دُمَّ اللَّذَاتِ﴾

”تمام لذتیں ختم کر دینے والی چیز (انجی موت) کو کشت سے بار کیا کرو۔“  
جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ”صبر“ کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اور ہم کی تجھیں کی  
توت بدی کی توت پر غالب ہے، اُنہیں بھی کسی وقت بے تکریبہ ہونا چاہئے۔ حضرت تھانوی  
ؒ اپنے خلفاء کو اس کی تلقین فرماتے تھے کہ وہ کسی وقت اپنی اصلاح سے غافل نہ ہوں،  
ایک دن خلفاء سے خطاب کرتے ہوئے حضرت ﷺ نے مولانا رومیؒ کی مشوی کی ایک  
حکایت نقل فرمائی کہ ایک لکڑا ہارا روزانہ منہ اندھیرے پہنچ جاتا اور شام کو لکڑیاں لکھ کر لوٹتا

تحا، ایک دن ایک لکڑا کے ساتھ ایک سردی سے ٹھنڈا ہوا سانپ بھی ہندھ کر آگیا راستہ  
بھر تو وہ بے حس و حرکت رہا اور لکڑا بارے کو کوئی تھان نہ پہنچا سکا، لیکن جب گھر پہنچ کر اس  
میں بکھر گری پیدا ہوئی تو اس نے اپرنا شروع کیا اور لکڑا بارے کے لئے خفڑا جان بن گیا۔  
مولانا رومیؒ فرماتے ہیں کہ ”فنس امادہ“ کی مثال بالکل اس ٹھنڈے ہوئے سانپ کی ہی  
ہے جو رانیں بلکہ وقتی طور پر افسردا ہو گیا ہے۔

نش اڑوحا است اوکے مردہ است

از غم بے آلتی افسردا است  
اس لئے اس سے غافل اور بے غلب ہونے کے کوئی سبق نہیں یہ واقعہ تعلیم کر کے  
حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ یہ بات میں صرف آپ ہی سے نہیں کہ رہا ہوں بلکہ خود  
اپنا افسوس بھی میرا صادی طور سے خاطب ہے اور مجھ مدد اس بات پر کارہند بھی ہوں اور یہ  
کہ کر اپنے زیک سے بکھر پرچے نکال کر دکھائے جن پر پکھہ ہے ایسا لکھنی ہوئی تھیں اور  
قریباً کسیل اپنے الدار ہو کر زور دیاں محسوس کرتا ہوں یہ پرچے ان کے علاج کے لئے ہیں۔  
اس کے پر عکس اگر انسان اس مقام ”صبر“ کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے  
تو نفسی خواہات اسے پچھاڑا دیتی ہیں اور وہ ان کے پاتھوں بے بیں ہو کر رہ جاتا ہے ظاہر  
ہے کہ ایک مومن کے لئے اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں ہے۔

حدیث میں ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑے  
چلاتا ہے اور اگر آدمی اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے اور اس سلسلہ گناہوں میں ملوٹ ہوتا چلا  
جائے تو فرستہ تھی سیاہی پورے دل کو گھیر لئی ہے اور جب آدمی اس مرطے پر پہنچ جائے تو  
وہ گناہوں کا خونگر ہو جاتا ہے اور ٹھیکی قوت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اسے کوئی گناہ محسوس  
نہیں کرتا۔

حیات میں اس کی مثالی ہے جیسے اگر کسی شفاف پکڑے پر کوئی دمبدگ جائے  
تو وہ ہوتے نہ ہوں میں کھلتا ہے اور اسے مانے کی لکڑی بھی پیدا ہوئی ہے لیکن اگر پکڑے پر  
یہ شمار وہ بگ جائیں تو ان کی وہ برلنی دل میں بالی نہیں رہتی اور انہیں مانے کی لکڑی بھی کم  
ہو جاتی ہے۔

بس اسی طرح اگر دل پر لگنے والے پہلے داع کو توبہ کے ذریعہ نہ دھویا گیا اور اس کے بعد "صبر" کے ذریعہ اختیاط اللہ کی جائے تو پورا فرش دلخوار ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو حدیث میں "دل کے زگ" سے تعبیر کیا گیا ہے۔

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی گلن اور آخرت کی تکروہتی ہے اُپسیں ہر وقت اس بات کی طرف توجہ رہتی ہے کہ کیسیں فس "صبر" کا دامن پھوڑ کر گئے ہوں کا عادی نہ بن جائے۔ حضرت حکیم الامت مولانا محتابی حفظہ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ؛ اُک میں ایک لفڑی آیا۔ اس پر لکھ تو لگا ہوا تھا گمراہہ تھی "حضرت" نے اسے چاک کر کے پھینک دیا اور فرمایا کہ اگرچہ حکومت ہم سے بہت سارو پیہ ناجائز طریقوں سے وصول کرتی ہے اس لئے ہمیں فتوے کی رو سے یہ حق ہے کہ ہم اس طرح اپنا حق جس قدر ہو سکے وصول کر لیں، لیکن ان طریقوں کو اس لئے استعمال نہیں کر سکا کہ اس طرح فس کو چلے کالئے کی بری عادت پڑتی ہے۔

"صبر" کے بعد دو سر ا مقام جس کی تحصیل فرض ہے "مقام شکر" کہا تاہے، اگر آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے تو اس میں بے شمار آیات دیکھی ہوں گی جن میں انسان کے ذمہ "شکر" کو وابح قرار دیا گیا ہے، آج کی بھل میں مختار اسی بتانا ہے کہ اس "شکر" سے کیا مراد ہے؟ اور اس مقام کو کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

"شکر" کی حقیقت یہ ہے کہ محسن حقیقی کی نعمتوں کا اس طرح اقرار کرنا کہ اس سے دل میں محسن کی محبت اور اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو گیا وہ "شکر" کے تین لازی عناصر تین۔

(۱) اس بات کا اقرار و اعتراف کر جتنی نعمتیں مجھے حاصل ہیں وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اس نے مجھ پر اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی ہیں۔

(۲) چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنے فضل و کرم کی بارشیں برسار کی ہیں۔ اس لئے کائنات میں میرے لئے اس سے بڑا محبوب کوئی نہیں ہونا چاہئے۔

(۳) اللہ کے بے پایاں اتعامات کا نظری تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اسی کی اطاعت کروں اور اس کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہ کروں اپنے الفاظ دیگر ہو نعمتیں اس

نے مجھ کو عطا فرمائی ہیں، ان کو انی کاموں میں خرچ کروں جو اس کی مرضی کے مطابق ہیں، اور ان کاموں میں خرچ کرنے سے بچوں جو اس کی مرضی کے خلاف ہیں۔ جب یہ تین جذبات کی انسان کے دل میں پختہ ہو جاتے ہیں تو ”تصوف“ کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے ”مقام شکر“ کو حاصل کر لایا ہے۔

پھر ”مقام شکر“ کو حاصل کرنے کے لئے ان تین جذبات میں سے بھی اصل الاصول پر ہائی جذبہ ہے کیونکہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال کما نظر رکھ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر کتنی نعمتیں ہر آن مہدوں رہتی ہیں تو اس کا لازمی تجھے ہو گا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اطاعت کا جذبہ خود بخوبی دیدار ہو گا، لفڑا اگر کسی وقت ”محبت“ اور ”اطاعت“ میں کوتایی محسوس ہو تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تکمیل اقتدار و اعتراف دل میں پیدا نہیں ہوا۔

فرغ پہنچے کہ ایک نامعلوم شخص ہے جو ہر مشکل کے وقت آپ کی مدد کرتا ہے جب کبھی آپ کو روپیہ پیسہ کی شدید ضرورت ہوتی ہے تو خود بخود کسی ذریعہ سے روپیہ پیسہ آپ کے پاس نہ چکا دیتا ہے، جب کبھی آپ بیمار پڑتے ہیں تو نمایمت موڑ دوائیں آپ کے لئے میا کرتا ہے جب کبھی آپ بے روزگار ہوتے ہیں تو بھرمن روزگار آپ کو دلوادیتا ہے غرض ہر اس موقع پر نامعلوم طریقے سے آپ کی مدد کرتا ہے جب آپ پریشان یا خست حال ہوں۔ فطری بات ہے کہ آپ خواہ کئی ہی مسئلہ کیوں نہ ہوں اس شخص کی محبت آپ کے دل میں چاکریں ہو جائے گی۔ اور اگر کسی موقعاً پر یہ شخص آپ سے کوئی کام کرنے کو کے چاکٹ اس کی قیلی میں آپ فخر اور سرت محسوس کریں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر ”محسن“ کے احبابات کا علم اور اعتراف صحیح طریقے سے ہو تو اس کی محبت اور اطاعت خود بخود دل میں پیدا ہوتی ہے، لہذا ”مقام شکر“ کو حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ اور اعظام کا تکمیل اقتدار اور استحضار پیدا کیا جائے۔

عنتیدہ تو ہر صاحب نہ، بل اس بات کو مانتا ہے کہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ لیکن ”مقام شکر“ تک پہنچنے کے لئے ضروری یہ ہے کہ یہ حقیقت خیالات میں اتنی پیوست

ہو جائے کہ آدمی کو ہر وقت یہ حقیقت سامنے کھڑی نظر آئے، مختصر لفظوں میں یہ کہ بچھے کہ اس حقیقت کا استحضار اتنا تو ہی، وہ کہ اس کے ثابت کرنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہ رہے بلکہ وہ اس کا مشاہدہ کرے یا مال تک کہ تکلینوں اور پریشانیوں کے وقت سمجھی وہ ان سکلوں نعمتوں کو فراہوش نہ کرے جو میں اس وقت بھی اس پر مہدوں ہیں۔

جب انسان کو ”مقام شکر“ حاصل نہیں ہوتا تو تکلینوں اور پریشانیوں کے لئے اس کا احساس تیز اور نعمتوں اور راحتوں کے لئے نہایت سست ہو جاتا ہے اس کا تجھے یہ ہوتا ہے کہ سکلوں نعمتوں اور راحتوں کے درمیان اگر اسے ذرا ی تکلیف پہنچ جائے تو وہ نعمتوں کو بخوبی کر پائی ساری تو جھات کا مرکز اس تکلیف کو بنایتا ہے، اور اس کا غم لئے بیخار رہتا ہے، اس کے بر عکس جس شخص کو ”مقام شکر“ حاصل ہو وہ چند در چند پریشانیوں میں بھی نعمتوں کا پلہ بھاری رکھتا ہے اور اسی وجہ سے اس حالت میں بھی اس کی زبان پر سکلوں اور آہوں کے جگائے شکری کے کلامات جاری رہتے ہیں۔

حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رض جو اکابر دیوبندی میں حضرت میال صاحب رض کے نام سے مشورہ ہیں، میرے نہایت شیق استاذ اور مربی تھے ایک مرتبہ انہیں شدید بخار آگاؤں میں بڑا بڑا بخار پریسی کے لئے حاضر ہو تو وہ چار پانی پر تقریباً ہوش لئے ہوئے تھے، بخار اپنے شباب پر تھا اور اس کی شدت کی وجہ سے شش سی طاری تھی، وہ دراہوش میں آئے تو میں نے سلام کر کے بڑا بڑا بخار پر سمجھا انہوں نے بے ساختہ کہا:

”الحمد لله! اللہ نہ اہم اچھا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ ملحت مدد ہے،  
گردے میں درد خیس، سینے میں کوئی تکلیف نہیں سب اعضاء نیک کام کر رہے ہیں، اسی تھارے ہے!“

یہ ہے ”مقام شکر“ کا تجھے کہ انسان شدید بخار میں نہ ہوش ہونے کی حالت میں بھی اس حقیقت کا استحضار رکھتا ہے کہ ”تکلیف ایک ہے اور نعمتیں بے شکر“، ”حقیقت بلاشبہ وہی ہے جو حضرت میال صاحب نے میان فرمائی کہ بخار پہنچ ایک تکلیف ہے میں اس کی ساتھ قیمتیں کتنی موجود ہیں! رکھنے کے لئے آنکھ ٹوٹنے کے لئے زبان، منٹ کے لئے کان، پکڑنے کے لئے ہاتھ، اعلاج کے لئے حکیم، اکٹھا اخراج دار کے لئے عزیز و قریب اور

رشته دار پھر تکلیف بھی صرف بخارے اول دو ملٹی سسنڈ گروہ ہر چیز اپنی خصوصیتیاری سے محفوظ ہے..... یہ حقیقت تو یقین کہ ہے، لیکن عام حالات میں انسان ایسے موقع پر ان تمام نعمتوں سے یکسر غافل ہو جاتا ہے اور اسے بخارے کلکیف کے سوابکو نظر نہیں آتا اس حقیقت کا اور اسکا اور استحضار اُنچی اُگوں کو ہوتا ہے جنہیں اللہ نے "مقام شکر" کی دولت نصیب فرمائی ہو۔

یہ دولت حاصل کس طرح ہوتی ہے؟ امام غزالی یہ فرماتے ہیں کہ اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتوں پر غور کیا کرے۔ امام غزالی یہ فرماتے ہیں احیاء الحلوم میں قصیل کے ساتھ ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جن پر غور کرنے سے انسان "مقام شکر" حاصل کر سکتا ہے۔

امام غزالی یہ فرماتے ہیں کہ نقیش دو قسم کی ہیں، ایک مخصوص نقیش جو کسی شخص کو انفرادی طور سے ملتی ہیں، فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے، فلاں کے پاس اچھا مکان ہے فلاں کو بڑی سعادت مند اولاد ملی ہوئی ہے، فلاں شخص بڑا ہمار لعزیز ہے۔ یہ ساری نقیش مخصوص نقیش ہیں، اس کے علاوہ کچھ نقیش عام قسم کی ہیں، جو ہر انسان کو بہوقت میریں، چاند سورج ستارے، ہوا، آگ، یاں، میں، جنگل، پہاڑ، پھر جسم کے اعضاء آنکھ، کان، ناک، ہاتھ پاؤں وغیرہ اُر انسان ان تمام نعمتوں اور ان کی حکمتیں پر سمجھی گئے غور کرے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو "مقام شکر" حاصل نہ ہو، لیکن چونکہ یہ ساری نقیشیں ہے مانگے اللہ نے دیدی ہیں، اُسیں حاصل کرنے کے لئے کوئی حنت اخہانی نہیں پڑی کوئی یہے خرچ کرنا نہیں چاہیے، اس لئے انسان اُسیں فتح یا اُن کھاتا ہیں ہے، یا مجھتا ہے تو سر مری طور پر دیکھ کر گذر جاتا ہے حالانکہ انسان کو یہ سوچنا چاہئے کہ اگر کسی وقت ان میں سے ایک نعمت بھی چھین جائے تو کروڑو زوکروڑو پہیے نہیں، ساری دنیا کے تمام خزانے لَا کر بھی کیا وہ اس نعمت کو دیں لاسکتا ہے؟ قرآن کریم اسی طرف اشارہ فرماتا ہے:

﴿إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْلَّيلَ سِرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِنَّهُ شَيْءٌ اللَّهُ يَأْتِيْكُمْ بِمِضْيَاءٍ﴾

"اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک دائی رات سلطان کر دے تو اللہ کے سوا کوئی سبود ہے جو تمیں روشنی لا کر دے سکے؟"

ایسی طرح

﴿إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سِرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِلِيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ﴾

"اگر اللہ تم پر بیوہش کے لئے قیامت تک دن ہی سلطان کر دے تو اللہ کے سوا کوئی سبود ہے جو تمیں لئی رات لا کر دے سکے جس میں جویں سکون حاصل ہو۔ غرض انسان کو چاہئے کہ اولادہ ان نعمتوں پر غور کرے جن سے بہت سے افراد محروم ہیں، پھر عام نعمتوں پر غور کرے جو ہر انسان کو میریں، مگر ان میں سے ہر لیک ایسی ہے کہ دنیا بھر کے عقولاء حکماء اور سالندان مل کر بھی چاہیں تو اس کو بیدار کر سکیں، اگر وہ چھن جائے تو دیں نلاسکیں۔

اس معاملہ میں امام غزالی تکی ایک مختصر کتاب "الحكمة في مخلوقات الله" بت مظید ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی اسی نام سے شائع ہو چکا ہے، "مقام شکر" کو حاصل کرنے اور اللہ کی نعمتوں کا استحضار پیدا کرنے کے لئے اس کا مطالعہ نہایت مظید ہو گا۔

### طلب المعاش فرضية بعد الغريرة.

”طلب معاش فرائض اسلام کے بعد و درازی نہ ہے۔“

حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ اسی وجہ سے اپنے مسلمین کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی ”صحت“، کا خاص خال رکھا کریں لیکن بکوں بکوں و حقوق نفس میں سے ہے اور اگر صحت خراب ہو جائے تو آدمی کچھ شیں کر سکتا۔

دوسری وجہ ہے ”خطوف نفس“، یعنی وہ نفسانی لذتیں جن پر نہ انسان کی قباعہ موقوف ہے اور نہ ان کی تحصیل انسان کی فطرت میں داخل ہے، انسان اپنی محض اپنی زائد از ضرورت نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے اختیار کرتا ہے۔ اس قسم کی خواہشات کو ترک کرنے کا نام ”زہد“ ہے اور یہ اسلام میں مطلوب و محبوب ہے۔ قرآن و حدیث یا فقہاء و صوفیاء کے کلام میں ”ترک دنیا“ سے مراد یہی ”زہد“ ہی ہوتا ہے۔ ”رجائبیت“ نہیں۔

صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ ”زہد“ کے عین درجات ہیں۔

(۱) اس سے اطلاع درجہ تو یہ کہ مال و مماثع سے ول میں ایسا اعراض اور لذت ہو کر کوئی بھی دی جائے تو اچھا نہ گئے۔ مگر اس لذت کے باوجود اسے بدر ضرورت استعمال کرے، اور ضروریات اصلیہ سے زائد حصے کو چھوڑ دے یہ اعلیٰ مقام سرکار دو عالم ہے کا تھا، آپ ہی نے فرمایا۔

﴿مَالٍ وَلِلْدُنِيَا أَنَّمَا أَنْهَا كِتْمَلَ رَأْكَبَ اسْتَظَلَ تَحْتَ شَجَرَةَ ثُمَّ ارْتَحَلَ﴾

(او کھافا)

”مجھے دنیا سے کیا کام؟ میری خال و اس شہزادی کی ہے جو زور دیر کئے کسی درخت کی چڑاؤں لیتا ہے پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ آپ کا معمول کھانے پینے میں یہ تھا کہ سمت تھوڑی مقدار پر آنکھ فراہت تھے۔ شاہکل تندی کی متعدد روایات سے ثابت ہے کہ آپ نے کبھی ”فسیر“ ہو کر

### مقام زہد

چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن!

”زہد“ کے لغوی معنی ہیں: اپنی کسی مرغوب چیز کو کسی دوسری بصری وجہ کے لئے چھوڑنا اسلامی اصطلاح میں زہد کا مطلب ہے آخرت کے لئے دنیا کو ترک کر دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ محض ”ترک دنیا“ کا نام ”زہد“ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص بھس کی بندپور نیا کو چھوڑ دے تو یہ ”زہد“ نہیں کہا جاتا۔

پھر آخرت کے لئے بھی، جس ”ترک دنیا“ کی ترغیب وی گئی ہے اس کا مطلب سمجھنے میں بھی بڑی شکل فہمیں پالنی جاتی ہیں، بعض لوگ ”زہد“ کو ”رجائبیت“ کا مراد فسجھتے لگتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا، بینا، تجارت یا کسب معاش کے ذریعہ اختیار کرنا ”زہد“ کے خلاف ہے حالانکہ اس قسم کی ”ترک دنیا“، قرآن و سنت کی تصریحات کے بالکل خلاف ہے۔

بیش بادر کھئے کہ ایک توہین و نیا کے مقاصد ضروری ہیں کے بغیر انسانی زندگی کا بقاء ممکن نہیں اور جو ہمیں حاصل کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، مثلاً بتدر ضرورت کھانا پینا اور حصول معاش کی کوشش ایسی چیزوں کو ”حقوق نفس“، کہا جاتا ہے اور شریعت نے انسان کے ہے ضروری قرار دیا ہے کہ ”نفس“ کے ان ”حقوق“ کو ادا کیا جائے اور انی حقوق کو ترک کرنے کا نام ”رجائبیت“ ہے جس کی قرآن کریم نے ممانعت فرمائی ہے۔ اور حدیث میں سرکار دو عالم ہے کا تھا، فرمایا کہ

کھانا تاول نہیں فرمایا، حضرت عائشہؓ فرمائی ہیں کہ بعض اوقات ہم صیہوں تک صرف پانی اور سکھر پر آنکھ کرتے تھے۔

(۲) زید کا دوسرا درج یہ ہے کہ آدمی نہ دینی مال و محتاج سے بالکل فرست کرنا ہو، اور نہ اس کی کوئی خاص رغبت ہو کوئی زائد از خود رست چیز بھی مل گئی تو اللہ کا شکر کر کے استعمال کی، اور اگر کچھ نہ طاوبھی پڑتا رخ و افسوس نہ ہوا۔

حضرت حاجی لہاد اللہ صاحب مہاجر کی حیثیت کا واقعہ ہے کہ مکہ کر من میں ان کا سارا مال چوری ہو گیا، چوروں نے ان کے گھر میں بالکل جھاڑوںی دپدی لیک چیز نہ چھوڑی، حضرت گوپرہ چلا اپنہ اس مال کا اطمینان فرمایا بلکہ ایک خاص کیفیت میں یہ مصروف پڑھا۔

ہمامیچ نہ داریم و غمیچ نہ داریم  
اتفاق سے متولین کی کوشش سے وہ مال سروقت دوبارہ مل گیا، تو اس پر بھی سرست کا اطمینان فرمایا اور اسے استعمال کیا۔

حضرت قطب الدین حنیفہ کا یہ واقعہ ہے بھی اسی حرم کا واقعہ منقول ہے۔  
(۲) زید کا تیسرا درج یہ ہے کہ آدمی کو دنیا کی طرف رغبت تو ہو اگر اس کی فکر میں زیادہ تر پڑے، اسی وجہ سے دنیا کی محنت اسے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی یہ درجہ ”دقیقت“، بھی کہلاتا ہے، اسی کو حضرت مولانا راوی فرماتے ہیں:

قدیت دنیا از خدا غافل شدن

یعنی سرنا چاندی اور بیوی بچے دنیا نہیں دنیا ہے کہ آدمی کی توجہات اور فکری و عملی توانائیوں کا سارا مرکز چیزیں بن جائیں، ”لوروہ خدا سے غافل ہو جائے“ لہذا اگر کوئی شخص مددار ہے مگر اس کی دولت اسے اللہ سے غافل نہیں کرتی تو یہ ”دنیا“ نہیں، اور اگر کسی کے پاس چارشی پیسے ہیں۔ مگر انہیں میں اس کا دل انجام ہوا ہے تو یہ ”دنیا“ ہے اور مددوم ہے۔

ایک بزرگ کا واقعہ مشورہ ہے کہ وہ سوت بیوے تاجر تھے ایک شخص ان کی بزرگی کا شہرہ سن کر ان کے پاس بڑی عقیدت کے ساتھ بیعت ہونے کے لئے پہنچا۔ مگر دیکھا کہ

ان کے اوقات کا برواء تجارت اور کاروبار میں صرف ہوتا ہے۔ اس کے دل میں شبہ پیدا ہوا اور اس نے ان بزرگ سے کہا کہ: ”حضرت! آیا یہ اتنا بڑا کاروبار زید کے منانی نہیں۔“ بزرگ نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا، پھر ایک دن تفریح کے لئے وہ اپنے مرید کو لیکر آبادی سے دور بیکھل گئے۔ وہیں اسنوں نے اچانک مرید سے کہا کہ: ”بھائی! اچھے کو دل چادر رہا ہے۔“ مرید نے کہا: ”حضرت! دل تو میرا بھی چادر ہے۔“ بزرگ نے کہا: ”پھر چلو!“ اور یہ کہہ کر کرہ میں سمت چل پڑے، مرید نے کہا: ”حضرت! میری ایک چادر شرمنی رہ گئی ہے، ذرا وہ لے آؤں۔“ اس پر بزرگ نے فرمایا: ”تمیں اپنی چادر کی توڑی فکر ہوئی اگرچہ نہ دیکھا کہ ہمارا کاروبار کس قدر پچھلیلا پڑا ہے۔“ مرید کو اس موقع پر عنبر ہوا اور اس نے کہا کہ بات سمجھو میں آئی۔“

حضرت مولانا راوی ”نے ایک نہایت دلنشیں مثال سے اس کو بھجا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال کشی کی ہی ہے، اور دنیا کی مثال پانی کی ہی ہے کہ کشی کے لئے پانی اس قدر ناگزیر ہے کہ کشی اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اور جب تک پانی کشی کے ارد گرور ہے اس کے لئے رحمت ہے، لیکن اگر کسی پانی کشی کے اندر داخل ہو جائے تو وہی کشی کی بیانی کا سامان ہیں جاتا ہے، بالکل بھی حال دنیا کا ہے کہ جب تک وہ انسان کے ارد گرور ہے تو اس کے لئے رحمت ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں داخل ہو جائے تو یہی دنیا انسان کو چاہ کر ذاتی ہے۔

آب اند زیر کشی پست است  
آب در کشی بلاک کشی است  
حقیقت یہ ہے کہ اس حکیمان مثال سے مولانا راوی ”نے“ دنیا“ کی حقیقت اس طرح واضح فرمادی ہے کہ اس پر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس! ”زید“ کی روح یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ کے سوا ہر چیز سے خالی ہو، خواہ وہ بیوی بچوں کے میں ورثیان رہے۔ کب معاش کی کوششیں بھی کرے۔ کھائے اور پیچے بھی، آرام اور تفریح بھی کرے، لیکن ان میں سے کسی چیز کی محنت کو اپنے دل پر غالب نہ ہونے دے، اور اسے یاد خدا کے لئے مخصوص رسم کے اکابر نے کیا خوب کہا ہے۔

یہ کمال کا فسانہ سودوزیاں  
کھو دل سے کہ فرست عمر بے کم  
ہمارے حضرت مجدد صاحب ترقیتے ہیں  
جو گیا سو گیا، جو ملا سو ما

دنیا میں ہوں، دنیا کا طلب گار نہیں ہوں  
بازار سے گزرا ہوں تریدار نہیں ہوں

اس زمانے میں ”زہد“ کے پہلے دو درجات کو حاصل کرنا مشکل ہے اور اگر فقر  
وقاۃ حد سے گزر جائے تو موجودہ حالات میں گناہوں کا سبب بھی بن سکتا ہے، اس لئے  
حقیقی صوفیاء کا کہنا ہے کہ اس دور میں تیسرا درجے کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے،  
حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی اپنے متسلین سے فرمایا کرتے تھے کہ تم سب کے  
بدلے فقر و فاقہ میں نے کر لیا ہے، اتمما را زہد ہے کہ حال راستوں سے معاف حاصل کرو،  
اور خدا کی یاد سے غافل نہ ہو۔

کمال میں ہے، کمال سے کمال ہے، کمال سے کمال ہے،  
کمال سے کمال کے موکی سے کمال کے موکی ہے،  
کمال سے کمال کے موکی سے کمال کے موکی ہے،  
کمال سے کمال کے موکی سے کمال کے موکی ہے،

## مقامِ توحید

یکے وال، یکے خواں، یکے بیٹے، یکے جو

جن امثال باند کو حاصل کرنا انسان کے ذمہ ضروری ہے، ان میں سے ایک  
”توحید“ ہے۔ توحید کا ایک منہوم تو آب نے علم عقائد میں پڑھا ہے جس کا مطلب یہ ہے  
کہ انسان خدا کو ایک ملتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھوڑے یہ توحید اعتقادی ہے  
جس پر انسان کا لیہان موقوف ہے اور اس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا..... لیکن  
علم تصوف میں ”توحید“ سے مراد ”توحید عملی“ ہوتی ہے جو توحید اعتقادی سے اگلا درج  
ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ”توحید اعتقادی“ میں جس عقیدے کو عملی طور پر حاصل  
کیا گیا تھا، اسے عملی طور پر اپنا ”حال“ بنالیا جائے یعنی ہر آن اس حقیقت کو کوئی ہوں کے  
سامنے رکھا جائے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کی ذات واحد سے ہو رہا  
ہے۔ اس دنیا میں جتنے واقعات جیش آتے ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں اور  
اس کی میثیت کے بغیر کوئی ذرہ اور حرے اور حرکت نہیں کر سکتا عقیدے کی حد تک تو اس  
بات کو ہر مسلمان جانتا اور مانتا ہے، لیکن ہر رُخ و راحت اور غم و سرت کے وقت اس  
حقیقت کا استحضار نہیں رہتا، اس لئے جب کسی ظاہری ذریعے سے کوئی خوشی یا تکلیف  
پہنچی ہے تو آدمی اسی ظاہری ذریعے کو سب کچھ کچھ بیٹھتا ہے اور خوشی اور تکلیف دونوں کی  
نسبت اسی کی طرف کرتا ہے۔ لیکن ”توحید عملی“ کا مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ وہ اس

حقیقت کو ہر آن اس طرح مستحضر کئے گویا اس کو دیکھ رہا ہے اسی کو بعض بزرگوں نے اس طرح تعمیر فرمایا ہے کہ

”توحید خدا واحد دینا بود نہ واحد گفتن“

جب انسان کاغذات کے ہر لفظ کے پیچھے ہر آن خداۓ واحد حقیقت کو دیکھتا ہے تو وہ لوگوں کی دشمنی اور دوستی سے بے نیاز ہو جاتا ہے اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ جو راست یا تکلیف اسے پیشی ہے وہ تمام تر خداۓ کی طرف سے ہے اور ہر انسان خاہی طور پر اس کا سبب نظر آریا ہے نہ محسن لیک واطط ہے اس سے زائد بچھے نہیں۔

از خدا دل غلاف دشمن دوست

کہ دل ہر دو در تصرف اوست  
سرکار دو عالم سے متعلق ہے کہ جب آپ سے کامنے کوئی ہاگوار طبع  
بات پیش آئی تو زیادہ غم و غصہ کا احساس فرمائے کے بجائے صرف اتفاق فرمایا کرتے تھے۔ کہ

﴿ما شاء اللہ کان و ما لم بشلا یکون﴾

(جو بچھے اللہ نے پایا ہو گیا اور جو بچھہ نہیں پاچا ہے گاہو نہیں ہو گا)  
اور حقیقت یہ ہے کہ رجح و تکلیف کے موقعہ پر تکیں قلب کا اس سے بہتر نہ  
کوئی نہیں ہو سکتا۔

امام غزالیؒ نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو صحیا یا ہے ”فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے تواریخ دعویٰ کیا کہ تو نہ بھجے مارا ہے اس نے جواب میں کہا کہ میں کون ہوں! مجھ میں کیا طاقت تھی؟ مجھے تمہارے نے استعمال کیا؟ دعویٰ کرنا ہے تو اس پر کرو“ اس شخص نے ہاتھ پر دعویٰ کیا تو اس نے کہا کہ میرا کیا اقصور؟ میں تو بے شور تھا یہ ”دارا وہ“ تھا جس نے اگر مجھے جھلکایا اس نے لڑا کے تو اس سے لڑو“ اس نے ”دارا وہ“ پر دعویٰ کیا تو اس نے کہا میں کیا جیز ہوں؟ مجھے تو دل نے اس حرکت پر انگیختہ کیا تھا، دل کے پاس بچھاؤ وہ بولا کہ میری حقیقت کیا ہے؟ میں تو کسی اور کے قدرت میں ہوں، ”القلوب بین اصحابی الرحمٰن“ اس طرح انجام کا نہام حرکات کی اتنا ایک ہی فاعل حقیقی پر ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔

بس کی وہ حقیقت ہے جس کا استحضار ”توحید عملی“ کو مطلوب ہے اور جب انسان توحید کے اس مقام کو درجات حاصل کرتا ہے تو نہ اس کے دل میں کسی کی خواہد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نہ وہ چاہلہ سی کرتا ہے نہ وہ خدا کے سو اسی سے ذرتا ہے نہ ممال و دولت کی لائچ اسے کسی کام پر آمادہ کر سکتی ہے اور نہ جان کا خوف اسی کو شیخ سعدی تعریتے ہیں نہ موصدا! چہ بہپائے رہنی زی رش صدیق

چہ نولاد بندی نہیں بر سر شہ  
امید و هراش نہ باشد رہس  
ہمیں است بنیاد توحید وہیں

اس لئے کہ وہ اس حقیقت کو صرف جاناتا ہی نہیں بلکہ انکھوں و رکھتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر مجھے کوئی لفغ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے اور سارے جہاں کی ٹھاٹتھات قیچ ہو کر مجھے کوئی رُک دینا چاہیں تو نہیں دے سکتیں اس لئے میں کسی سے کیوں ڈراؤں؟ اور کسی خواہد کسی لائچ کا فنا کریں ہوں؟ چنانچہ وہ اللہ کے سوانہ کسی سے ذرتا ہے نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے نہ کسی کی خواہد کرتا ہے نہ کسی سے کوئی ایسی امید بازدھتا ہے جس کی خلاف ورزی سے اسے تکلیف پہنچے! اس وہ تو ایک اسی ذات کے ساتھ تعلق میں ملت ہے اور اس کا فخر ہے کہ

یکے دل یکے خواہ یکے بنیں یکے جو

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقام حاصل کیسے ہو؟ بات در اصل یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اعتقاد اتوحید کا حقیقت ہوتا ہے لیکن چون کہ انسان کی بچپن خاہی و ساختا کے خم و بچ میں الگی رہتی ہیں اس لئین پر کچھ اور ہام سلطہ ہوتے رہتے ہیں اس کی مثل یققول امام غزالیؒ کی ہے جیسے ایک مردہ انسان کی لاش کے بارے میں ہر انسان کو مکمل یقین ہوتا ہے کہ یہ جادا ہے اس میں کوئی شور نہیں یہ از خود حرکت نہیں کر سکتی لیکن اس یقین کے باوجود انسان اس لاش کے ساتھ ایک ہی بستر سونے سے دھست محوس کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لاش کے بے جان ہونے کا قائل نہیں بلکہ وہ اسکے بے جان ہونے کا قائل ہے لیکن کچھ اور ہام اس کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں۔

بس! اسی طرح ہر مسلمان ان ظاہری و ساقط کو بے بس تو سمجھتا ہے مگر اس کے قلب میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ اب امام کو اپنے اپر تالب نہ دنے دے۔ اگر تکب میں یہ قوت پیدا ہو جائے تو دل تو توحیدہ عملی، "کام قائم خود بنو د حاصل ہو جائے گا" حضرت مجدد ب "رماتے ہیں

چکھ بھی مجتوں! جو بصیرت تجھے حاصل ہو جائے تو نے میل ہے سمجھا ہے وہ عمل ہو جائے تکب کی یہ قوت "مراقبات" کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، جب انسان یکمیت کے ساتھ روزانہ واقعات عالم پر تنظر کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں کے بناۓ ہوئے مخصوصے کس طرح روزانہ خاک میں مل جاتے ہیں، تو فتنہ روندہ اس کے دل سے ابیام کے ہاں چھٹے لگتے ہیں اور "عقیدہ توحید" اس کی رگ و پے میں سرایت کر کے اس کا "عمل" بننے لگتا ہے۔ ہاں ان مراقبات میں کسی شیخ کامل کی ضرورت ہے تاکہ وہ انسان کو افراط و تغیریط میں بنتا ہونے سے روکتا رہے۔

افراط و تغیریط کے سلطے میں دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں، ایک توجہ کہ اگرچہ اس کائنات میں ہر خبر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور انسان کو راحت بھی اسی کی طرف سے پہنچتی ہے اور تکلیف بھی لیکن ادب کا قانون ہے کہ انسان خیر کے ہر زیارات کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کرے لیکن شر کے ہر زیارات کی نسبت اس کی طرف نہ کرے، "قرآن عزیز" کا ارشاد ہے کہ

۱۰ ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا يَمْسِكُ هَا وَمَا يَمْسِكُ فَلَا مُرْسِلٌ لَهُ من بعدہ﴾

"اللہ جس رحمت کو کھول دے تو اسے بند کرنے والا کوئی نہیں اور جس چیز کو بند کر دے اسے اس کے سوا کوئی بھجوڑنے والا نہیں۔

یہاں باری تعالیٰ نے سچوئے کے ساتھ تو "رحمت" کا ذکر فرمایا ہے، مگر بند کرنے کے ساتھ "رحمت" کا ذکر نہیں فرمایا۔ وہاں "جس چیز" کے الفاظ ہیں، "اس چیز" کی تعریف نہیں فرمائی، اس میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ رحمت کو بند کرنے کی نسبت اللہ کی

طرف کرنا خلاف ادب ہے اور اس میں یہ نکتہ بھی ہے کہ جوچہ نظر در ظاہر خلاف رحمت نظر آتی ہے اور بھی کائنات کے سکونی مصالح کے پیش نظر رحمت ہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے کو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے اقتیار فرمایا تفریک کریم میں ہے کہ وہ تمام بھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے رہے کہ وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، مجھے کہلانا اور پلانا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ:

﴿وَإِذَا رَضِتَ فَهُوَ يُشَفِّفُينَ﴾

"اور جب میں بیار، وجاہاں ہوں تو وہ مجھے خفا دیتا ہے۔" یہاں شفاؤینے کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی، اور مرض کی نسبت خود اپنی طرف کی۔

ای طرح حضرت خضریؑ نے ایک جگہ تو فرمایا کہ

﴿فَأَرَادَ رِبُّكَ أَنْ يَمْدُدْهُ مَاءً حَيْرَانَهُ زَكَرَهُ وَأَقْرَبَ رُحْمَاهُ﴾

یہاں بھی بات کے ارادے کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی لیکن کشی کے قصے میں فرمایا ہے، فنا دت اُن اعیشیا ہے، یہاں چونکہ "عیسیٰ" کا لفظ آسیا تھا، اس نے اس کی نسبت خود اپنی طرف فرمائی۔

اسی وجہ سے قدماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لئے صرف ﴿الحال  
الکلام و المخازن﴾ کے الفاظ استعمال کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ کائنات کے تمام واقعات میں فاعل و موثر حقیقی اللہ ہی کی ذات ہے لیکن اسلامی شریعت نے ظاہری و ساقط کو دونوں احکام میں بالکل خارج از بحث قرار نہیں دیا بلکہ ان کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فاعل حقیقی تو بلا شد اللہ ہی ہے لیکن اللہ نے جس چیز کو فعل کے قوع کے لئے واسطہ ہا یا اس کا بھی ایک مقام ہے چنانچہ اگر کوئی شخص آپ پر کوئی احسان کرے تو اس کا شکر اور کرنا بھی آپ پر واجب ہے اس کی مثال اسی ہے جیسے علماء نے لکھا ہے کہ حصول علم کے جو آلات ہوتے، خلا قلم، روات اور کائندو غیرہ، طالب علم کو ان کا بھی احترام کرنا چاہئے۔

البت ان وسازا کو کس حد تک محو ظر کھا جائے اور کہاں ان سے صرف نظر کر لیا جائے؟ یہی ایک فرق ہے خو ”توحید عملی“ کی راہ پر چلنے والے کو محو ظر کھاتا ہے اور عملاً اس کی حدود کا تین کسی شخص کا مل کی رہنمائی ہی سے ہو سکتا ہے۔

## مقام توکل

بر توکل پایہ اشتربہ بند

جن باطنی اعمال کو حاصل کرنا انسان کے ذمہ ضروری ہے ان میں سے ایک ”توکل“ ہے جو درحقیقت اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان ”مقام توحید“ کو حاصل کر چکا ہو۔ قرآن و حدیث میں توکل کی ہمکید بار بار آتی ہے اور جگہ جگہ اس کے نشان و نوادر بیان کئے گئے ہیں۔ آج کی بھلس میں اسی کی حقیقت بیان کرنا لقصود ہے۔

”توکل“ عربی زبان کا لفظ ہے جو ”و کالہ“ سے ماشروع ہے۔ اس کے الفوی معنی ہیں۔ ”کسی پر بھروسہ کر کے کسی کام کو اس کے پرداز کریں“۔ سچھر اسلامی اصطلاح میں توکل اسے کہتے ہیں کہ انسان اسباب پر ٹکلی کرنے کے بجائے اللہ پر تمہل بھروسہ کر کے اپنے تمام امور اسی کو سوت پ دے۔

غور فرمائیے کہ آپ کسی شخص پر کب بھروسہ کرتے ہیں جس شخص کو آپ بھروسہ کا اہل سمجھتے ہوں اس میں کیا صفات آپ رکھتا چاہتے ہیں؟ غور کریں گے تو معلوم ہو گا کہ ایک

انسان بھروسہ کا الہ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہوں۔ علم، قدرت اور ہدروی و شفقت!

یعنی اول تو آپ اس بات کا اطمینان کرنا چاہیں گے کہ جس شخص پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں وہ آپ سے آپ کے احوال سے اور تمام مختلف امور سے پوری واقعیت رکھتا ہو ورنہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کچھ فائدہ نہ پائی جائے گا۔

دوسرے آپ یہ چاہیں گے کہ ہو کام آپ اس کے ہر دو کو رہے ہیں وہ اسے انعام دینے کی پوری صلاحیت اور قدرت رکھتا ہو اور نہ ظاہر ہے کہ اگر وہ اس معاملہ میں بے لبس ہو تو آپ کی کیا مدد کر سکے گا؟

تیسرا آپ کی خواہش یہ ہو گی کہ جس شخص پر آپ نے بھروسہ کیا ہے وہ آپ کا ہدرو اور آپ پر سربان ہو، ورنہ اس کی دسیع معلومات اور عمدہ ملادیں آپ کے کچھ کام نہ آئیں گی۔

اسکے بعد زورا پنے اگر دوپیش پر ایک نظر ڈال کر دیکھئے یا کوئی انسان ایسا نظر آتا ہے جس میں یہ تینوں صفات کامل طور سے موجود ہوں اور زندگی کے ہر معاملے میں آپ اس کے طم، قدرت اور شفقت پر بھروسہ کر سکتے ہوں! اگر آپ حقیقت پسندی کا مظاہر کریں گے تو یقیناً آپ کا جواب فتحی میں ہو گا۔ یا کوئی شخص آپ کو دعویٰ نہ سے بھی نہیں مل سکے گا جس میں یہ تینوں اوصاف اس قدر کمال کے ساتھ موجود ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا ہر معاملہ اسے سونپ کر مطمئن ہو سکیں۔

اب اللہ جل شاد کے معاملے پر غور فرمائیے تو نظر آئے گا کہ اس میں یہ تینوں اوصاف اس قدر کمال کے ساتھ موجود ہیں کہ اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا لہذا کیا وہ ذات اس لائق نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ہر معاملہ اسے سونپ کر مطمئن ہو جائے اور ہر معاملہ میں اسی پر بھروسہ کرے یقیناً ہے!

اس لئے قرآن کریم فرماتا ہے:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتُكُلُّ الْمُؤْمِنُونَ.﴾

”اور مومن بس اللہ تھی پر بھروسہ رکھیں“۔

## توکل کی تین فتمیں

چونکہ توکل کا صحیح مفہوم سمجھنے میں لوگ عموماً مختلطیاں کرتے ہیں اس لئے یہ سمجھ لجئے کہ اس کی تین فتمیں ہیں۔

(۱) توکل کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان نظری طور سے تو ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پرداز کر رکھے۔ لیکن عملی طور پر اس کا دھیان اسab کی طرف لگا رہے، اور ظاہری اسab وسائل ہی اسکی پیشتر تو جمات کا مرکز بنے رہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ اپنا مقدمہ کسی وسائل کو پرداز کر رہے ہیں اس پر آپ کو بھروسہ کو ہوتا ہے، لیکن آپ اس معاملہ اس کے پرداز کر کے آپ بالکل فارغ نہیں ہو جاتے بلکہ ہر وقت دھیان اور کوشش اس کی طرف گئی رہتی ہیں۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ظاہری اسab کو معمولی طور سے صرف اس لئے اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالہ کر دیں اور یہ بات ہر آن مسٹحضر رکھیں کہ یہ ظاہری اسab کوئی حقیقت نہیں رکھتے گرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، چنانچہ آپ کی پیشتر تو جمات اللہ تعالیٰ کو پوکارنے اور اسی کے سامنے اپنی حاضریں بیان کرنے میں صرف ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پیشے کو جب کبھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے وہ اسی اپنی مال ہی کو پوکارتا ہے، خود پچھہ با تھوڑی مارے بھی تو اس پر سطہ نہیں ہوتا اس کی وجہ اسی کی طرف رہتی ہے کہ کسی طرح مال متوجہ ہو جائے تو وہ ہر مشکل کو حل کر دے گی۔

(۳) تیسرا صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس درج بھروسہ کیا جائے کہ فا ہری اسab کی طرف مطلق نظر نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ کو پوکارے بھی نہیں اور یہ سمجھے کہ وہ تو خود میرے دکھ درد کو جانتا ہے، وہ خود ہی مدد اکرے گا۔

ایک روایت ہے کہ جب شرود حضرات ابراتم عليه السلام کو آگ میں ڈال رہا تھا تو حضرت جبراہیل عليه السلام حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اگر کسی خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر

ہوں۔ حضرت خلیل اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا۔

﴿أَمَا إِلَيْكُمْ فِلا، وَأَمَّا اللَّهُ فَنَحْنُ عِلْمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ﴾

”تماری تو نجھے احتیاج نہیں ہاں اللہ کی طرف بحاج ہوں تھگروہ سبزے حال کو خود جانتا ہے۔“

توکل کے ان تین درجات میں سے پہلا درجہ تو نامیانہ توکل ہے جو توکل کا بالکل ادنیٰ درجہ ہے اور تیسرا درجہ توکل کی حقیقت کے اعتبار سے توہست اعلیٰ ہے اگر یہ انجام و صلحاء کے خاص احوال سے متعلق ہے دائیٰ طرز عمل کے لئے شریعت میں مطلوب تھیں ہے۔

شریعت میں مطلوب توکل کا دوسرا درجہ ہے، آنحضرت ﷺ نے سنت اسی کو قرار دیا ہے، کہ ظاہری اسہاب کو معمولی طور سے اعتیار کرو اللہ سے دعائیں بھی کرو، میں بھروسہ ان ظاہری اسہاب پر کرنے کے بجائے اللہ ہی پر رکھو۔

## توکل اور ترک اسہاب

بر توکل پا یہ اشتہرہ بند

بعض نادیق لوگوں نے توکل، کوہت غلط استعمال کیا، انہوں نے اسہاب کو بالکل ترک کر دینے کا نام توکل رکھا ہے، بعض صوفیاء نے جو اپنے کچھ اقوال یا اشعار میں ’ترک اسہاب کو قبل تحریف قرار دیا ہے، یہ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ ان کا منشأ یہ تھا کہ ظاہری اسہاب کی حقیقت ہر آن پیش نظر کو کہ حقیقت میں نہ وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ انسان فتنہ و ضرر تمام تراللہ ی کے قبیلے میں ہے، ان کا منشاء یہ ہرگز نہیں تھا کہ ظاہری اسہاب کو بالکل جھوٹ دو۔

یہاں ”ترک سبب“ کے مسئلے کی تجویزی تفصیل عرض کرو یا مناسب ہو گا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنے کام کرتا ہے اس سے یا جلب منفعت (فتنہ حاصل کرنا) حصہ دوتا ہے یا اخذ منفعت (حاصل شدہ فتنہ کی خلافت) یا دفعہ محضت (کسی نقصان کو ختم کرنا) (تن کاموں کے لئے ساری دنیا وہ رات سرگردان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کام کے لئے کچھ اسہاب بنائے ہیں، ان اسہاب کی تین فضیلیں ہیں۔

## (۱) فتنی اساب

یعنی ایسے اساب جن کے ذریعہ مسیب کا حصول بقینی ہوتا ہے۔ مثلاً بھک لگ رہی ہے، روپی سامنے رکھی ہے۔ لیکن ہے کہ اس کے کھالینے سے بھوک رفیخ ہو جائے گی۔ یعنی اساب کو جھوڑنا توکل نہیں، اجتوں ہے اور شرعاً حرام ہے۔

(۲) فتنی اساب

یعنی ایسے اساب جن کو اختیار کرنے سے مسیب کا حصول پوری طرح بقینی تو نہیں ہے، لیکن عادۃ ہو جاتا کرتا ہے۔ مثلاً تجارت، زراعت وغیرہ کے ذریعہ معاش کا حصول، ایسے اساب کو ترک کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ نہ سب کو اختیار کرے، نہ اساب کے ماحول میں رہے۔ مثلاً کوئی شخص جاکر جنگل میں جا کر بیٹھ جائے، یہ تو شرعاً جائز ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اساب کے ماحول میں رہ کر اساب کو جھوڑ دے۔ مثلاً شہروں میں لوگوں کے ساتھ رہے لیکن کب معاش کی غفرانی کرے، معاش کی غفرانی کرے، عام حالات میں تو یہ بھی جائز نہیں، لیکن چند شرعاً کے ساتھ جائز ہے۔

(الف) صاحب عیال نہ ہو یعنی کسی کاہان و نفعہ شرعاً اس کے ذمہ نہ ہو۔

(ب) صاحب عزم اور پختہ کارروں۔

(ج) ہر حال میں راضی برقرار ہے۔

(د) کسی سے صراحتاً اشارہ قبول نہ کرے۔

ان شرعاً کے ساتھ کوئی شخص علا جا اساب معاش کو ترک کرے تو شرعاً جائز ہو گا لیکن ان میں سے کوئی ایک شرط بھی منقول ہو گئی تو ناجائز ہو جائے گا۔ جن صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ وہ اساب معاش کو ترک کرے بیٹھ گئے تھے ان کا حال یہی تھا کہ وہ واقعہ راضی برضا تھے، اولو العزم اور پختہ کار تھے، لیکن بیکھنے والے کو گمان ہی نہ ہوتا تھا کہ یہ فاقہ سے ہیں، یا انسیں روپے پیسے کی کوئی ضرورت ہے، قرآن کریم نے اسحاب صدقہ کی بھی شان

بيان فرمائی ہے کہ:

(۱) بحسبہم الحال اغنى عن التغفف (بقرہ ۵۰)

”وَمَا أَفْتَ آدمی اُن کے زمانگانی کی وجہ سے اپنی مدد ادا کھتھا ہے۔“  
پھر یہاں یہ بھی یاد رکھئے کہ جن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم یا صوفیاء کرام سے اساب معاش کو ترک کرنا منقول ہے، وہ کسی وظیٰ یا انتہائی ضرورت یا علاج نفس کے لئے تھا، اور نہ عام حالات میں افضل بہر صورت یہی ہے کہ انسان کب معاش کرے اور یہ توکل کے کسی طرح متعافی نہیں ہے، انہیاءً ظیمِ الاسلام، صحابہ کرام، رضی اللہ عنہم اور اوپر تھے درجے کے عارفین کا توکل بھی یہی ہے کہ وہ کب معاش کر کے نظر اللہ کے سامنے اور پر نہیں رکھے۔ اوازِ سلیل فارسی کی مشورہ کتاب ہے اس میں ایک بڑی حکمرانِ حکایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے ایک کوئے کو دیکھا کہ اس کے پر کئے ہوئے ہیں، وہ دل میں سوچنے لگا کہ یہ پیچارہ کیسے زندہ رہے گا؟ اس کے لئے نور اک کیسے میا ہوگی؟ ابھی کچھ ہی دیر گذری تھی کہ ایک عقاب نظر آیا جو اپنی جوچی میں ایک شکار پکڑ کر لایا تھا، یہ عقاب کوئے کے قریب پہنچا اور کوئے کے منڈ میں شکار ڈال گیا۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا تو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکومات کو اس طرح بھی رزق دیتا ہے۔ پھر میں ملاش معاش کی غفرانی کروں، اللہ تعالیٰ خود میرے لئے رزق بھیجے گا، چنانچہ وہ ہاتھ پر باختر کہ کر بیٹھ گیا ابھی روز گذر گئے گمراہے کچھ نہ ملا، پھر کسی حکیم نے اسے سمجھا کہ بندہ خدا تھے، وہ پر مرے دکھائے گئے تھے، ایک پر کٹا کووا، دوسرے عقاب۔ تو نے کو اپنے کو ترجیح کیوں دی؟ عقاب بننے کا خیال کیوں نہ آیا؟ جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے مخذولوں کو بھی کھلاتا ہے۔

یہ حکایت توکل کی حقیقت کی بالکل تھیک نہیں، وہی کرتی ہے جس شخص کے پاس اساب وسائل موجود ہوں اس کا اساب کا جھوڑ رہا تھا لیکن اس کی مثال عقاب کی سی ہے اسے خود بھی کھانا چاہئے، رو سروں کو بھی کھانا چاہئے، ہاں اگر کوئی شخص مخذولی یا مجبوری سے اساب سے محروم ہو جائے تو کہریہ غیر معقولی غفرانی شلط ہے کہ روزی کہاں سے آئے گی؟ اس کو ہر آن یہ سوچنا چاہئے کہ اساب وسائل تو چند آلات تھے، اصل

رزاں تو اللہ ہے اگر اسے زندہ رکھنا مختار ہے تو وہ کوئی نہ کوئی انتقام کرے ۔ ۔ ۔  
 چنانچہ صوفیاء کرام نے اس مسئلے پر تفکر کی ہے کہ جن صورتوں میں انسان کے لئے ترک  
 سبب چاہزہ ہوتا ہے ان صورتوں میں بھی اساباب خادیہ کو ترک کر کے توکل کرنا بہتر ہے یا  
 اساباب خادیہ کو اختیار کر کے ؟ شیخ عبد اللہ تسلیمی چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہونچھ اساباب کو  
 اختیار کرنے پر زبان صحن دراز کرے وہ اللہ تعالیٰ تخت پر اعزاز کرتا ہے اور جو شخص (جاہز  
 موقع پر) اساباب نادیہ کو ترک کرنے پر اعزاز کرتا ہے وہ توحید کی حقیقت کا انداز  
 کرتا ہے لہذا ایسے موقع پر جاہز تو دونوں ہیں (یعنی افضل و اعلیٰ طریقہ وہی ہے جس کی تعلیم  
 انبیاء علیهم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دی ہے اور جوان حضرات کی حدت ہے)  
 اور وہ یہ کہ اساباب کو اختیار بھی کیا جائے بلکن بحرود سلام اللہ پر ہو اساباب کو کار سازنہ  
 سمجھا جائے۔ آس حضرت مسیح نے ”واهی ساقیہا توکل“ کے سادہ اختصار دریغ مطلع میں  
 اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

عصر حاضر میں خاص طور سے ”توکل“ کا صحیح طریقہ یہی ہے کیونکہ جن موقع پر ترک اساباب  
 چاہزہ ہوتا ہے وہاں بھی اساباب کو تجوڑنے سے آج کل سینکڑوں مناسد اور خواہیں کا خطرہ  
 ہے اور یہ چیز کم از کم ہر قویہ اکر ہی دیتی ہے۔

### (۳) اساباب خیہ

ہاں اساباب کی ایک قسم اور ہے جسے اساباب خیہ کے نام سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور  
 وہ ہے دور از کار اور باریک بدریروں کے پیچے پڑنا۔ یہ چیز بالآخر ”توکل“ کے مقابل ہے  
 اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس مقصد کو بھی حاصل کرنا ہو اس کے لئے سامنے کے ان غاہری  
 اساباب کو تو ضرور اختیار کیا جائے جو انسان کے سب میں ہوں تکب و دماغ کو بھی چوڑی  
 بدریروں کی فکر سے آزاد رکھا جائے۔

حدیث میں آخرت ہیچکے نے اسی بات کو اس طرح تعبیر فرمایا ہے کہ۔

### ﴿الْجَهْلُ فِي الْطَّلبِ وَتُوكِلُوا عَلَيْهِ﴾

وہ سبی جیز کو طلب کرنے میں اختصار سے کام لو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ۔ ۔  
 صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آخرت ہیچکے نے ان افراد کا ذکر فرمایا ہے جو ہے  
 حساب جنت میں داخل ہوں گے اُپ ہیچکے نے فرمایا کہ یہ دلوگ ہیں جو

### ﴿لَا يَكُونُونَ﴾

”ولغ و نیے کا علاج نہیں کرتے۔“

اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ باریک بدریروں کے پیچے آنہ اسلام میں  
 پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اہل عرب میں لوہے کے ذریعہ ولغ و نیے کا علاج آخری علاج بھیجا  
 جاتا تھا، مثلاً مشور ہے کہ ”آخر الدواء الحکی“ (آخری دواعی و دینا ہے) خود  
 آخرت ہیچکے کا معاملہ بھی یہ تھا کہ سامنے کے اساباب اور بدریروں کو اختیار فرماتے اور اس  
 کے بعد یہ دعا فرماتے کہ اللہم هذا الحبید و عليك التكالان (اے اللہ! یہ اپنی سی کوشش  
 تھی اور بھروسہ آپ ہی پر ہے)۔

۱۸۵۸ء کے جادیں ولی کے چند بزرگ ایک مکان میں محصور ہو گئے، باہر قتل

عام ہو رہا تھا، اس لئے لفڑا ممکن نہ تھا بلکہ کاہتنا ذخیرہ مکان کے اندر موجود تھا اور وہ دو تین  
 روز میں ختم ہو گیا۔ جب بیان سے عاجز ہو گئے تو ایک بزرگ نبیالاً لے کر پرانے کے  
 نیچے رکھ دیا اور عالی کہ یا اللہ! میرے بس کا تو ایسا ہی کام تھا، آگے بارش بر سانا آپ کا کام

ہے، چنانچہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی اور سب لوگ سیراب ہوئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک اساباب کو بالکل چھوڑ دینا لفڑا ہے لیکن توکل کا  
 مطلب یہ ہے کہ ایک تو اساباب کی حقیقت ہر کن وہن میں مستحضر ہے اور کسی بھی  
 مرحلے پر غاہری اساباب پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ اسکے بھائے اختصار اور اعتدال کے ساتھ  
 اساباب کو اختیار کر کے معاملہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔

بہت افراط و تفریط سے پیچ کر اعتدال کے اس راست کو اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے۔

اور عارف کسی شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر اس مقام کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لئے دو مقام "توکل"، کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ بھی ممکن ہے کہ کسی شیخ کامل سے رجوع کر کے اپنے حالات و اتفاقات سے اسے باخبر رکھا جائے اور اس کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔